

أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

# دلکی دنیا آبادی کیتے

افادات

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی

(بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

و خلیفہ حضرت اقدس شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپور

مرتب

محمد زبیر قاسمی

(استاذ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

شعبۂ تحقیق والشاعت

Jamia Islamia Maseehul Uloom, Bangalore

K.S. Halli, Post Kannur, Hinnur Baglur Main Road, Bangalore - 562149 Phone : 9036701512

أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

# دل کی دنیا آباد کیجئے

## افادات

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مقامی

بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بیگور

و خلیفہ حضرت اقدس شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ناظم مظاہر علوم وقف سہارپور

مرتب

محمد زیر

(استاذ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بیگور)

ناشر

شعبہ تحقیق و اشاعت

# فہرست مضمایں

## تعمیر قلب

### فضیلت- ضرورت- اہمیت

۸	تمہید
۱۰	حقیقت قلب
۱۲	حدیث میں قلب کا مصداق
۱۳	انسان شکل و صورت سے نہیں بنتا
۱۴	انسان دل کو بنانے کا مکلف ہے
۱۵	خوبصورتی نے ابو لہب کو کامیاب نہیں کیا
۱۶	بدصورتی نے حضرت بلال ﷺ کو ناکام نہیں کیا
۱۷	افسوس کہ ہم ظاہر کے سنوارنے میں لگ گئے
۱۸	دل کی حالت کے سلسلہ میں اللہ کے نبی ﷺ کی فکر
۲۰	حضرت عیسیٰ ﷺ کی نظر میں قابل تعظیم دل
۲۲	دل کے اندر معرفت کا چشمہ جاری کر لیں، ایک تمثیلی واقعہ
۲۵	ذکر اللہ سے غافل دل مردہ ہوتا ہے
۲۶	دل سے متعلق حضرت مسیح الامت کی ایک تقریر کا خلاصہ

## انسانوں کے قلوب میں سختی و نرمی

۲۸

### اسباب - - نسخے

۳۱	CSAWAT QLB KBEERH GNAH HEE
۳۱	CSAWAT, SHQAWAT KI DILIL
۳۲	ALLAH KE NBNI NE SXT DLI SE PNAH MANGI HEE
۳۳	DLOU MEL SXT KI ASBAB
۳۴	PEHLA ASBEB: DANIYA KI MHBET
۳۵	SUDXUR KE DIL KI SXT
۳۶	DOSSR ASBEB: AAGRAT SE GFLT
۳۸	TISRA ASBEB: GNAHOU KI KRTHT
۳۹	GNAH DIL KO ZNG ALWD BNAD DIETE HIZ
۴۰	DLOU PRD QFTSM KI JML
۴۰	DIL PR SHBHAT KA HML

۲۲

زبان کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

۲۵

حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کی ایک خاص بات

۲۵

آنکھوں کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

۲۸

کان کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

۵۱

ایک لطیفہ

۵۲

شہوت فرج سے دل پر حملہ

۵۳

تکبر کے ذریعہ دل پر حملہ

۵۴

بڑائی اللہ ہی کو سزاوار ہے

۵۵

ریا کاری کے ذریعہ دل پر حملہ

۵۶

اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو جانا بھی ہجرت ہے

۵۷

دولوں میں نرمی کیسے پیدا ہو؟

۵۸

اہل فقہ کے لئے رقاائق کی ضرورت

۵۹

دل کی نرمی کا پہلا نسخہ - قرآن کریم کی تلاوت

- ۶۰ آپ ﷺ نے ایک آیت میں پوری رات گزار دی  
۶۲ قرآن نے آپ ﷺ کو رلا�ا  
۶۵ حضرت عمر کے دل کو کس چیز نے نرم کیا؟  
۶۸ قرآن نے طفیل بن عمر و دوستؑ کے دل کو بدل دیا  
۷۰ امام شافعی رحمہ اللہؐ کے دل پر قرآن کا اثر  
۷۱ قرآن نے حضرت میمون بن مهران رحمہ اللہؐ کے دل کو نرم کیا  
۷۲ ولید ابن عتبہ کے دل پر قرآن کا اثر  
۷۳ قرآن کا اثر کفار مکہ کے دلوں پر  
۷۶ کثرت تلاوت اور حضرت شاہ عبداللطیف صاحب کا ذکر  
۷۸ دلوں کو نرم کرنے کا دوسرا سخنہ - اللہ کا ذکر ہے  
۷۸ کثرت ذکر کا حکم  
۷۹ کثرت ذکر کا آسان طریقہ  
۸۰ ذکر اللہ دو کام کرتا ہے  
۸۱ ذکر اللہ کا فائدہ ترک معصیت پر موقوف

ایک عمدہ مثال

- |    |   |
|----|---|
| ۸۲ | کیا گناہ چھوڑ نے سے پہلے ذکر نہ کریں؟             |
| ۸۳ | دلوں کو نرم کرنے کا تیسرا نسخہ—موت کی یاد         |
| ۸۴ | تم کہیں بھی رہو موت آئے گی، ایک عجیب واقعہ        |
| ۸۷ | دلوں کو نرم کرنے کا چوتھا نسخہ—قبروں کی زیارت     |
| ۸۹ | ہمارے قلوب کی سختی کا حال                         |
| ۹۰ | قبرستان کو قبرستان ہی رہنے دو                     |
| ۹۱ | ایک شبہ کا جواب                                   |
| ۹۲ | دلوں کو نرم کرنے کا پانچواں نسخہ—اہل بکاء کی صحبت |
| ۹۳ | <b>تعمیر قلب کی آخری منزل</b>                     |
| ۹۴ | دل کے گھر کا کمین کون ہے؟                         |
| ۹۶ | دل بنانے کے لئے بھی انجینر چاہئے                  |
| ۹۷ | بلند ہمتی سے کام لینے کی ضرورت ہے                 |
| ۹۸ | پست ہمتی کا علاج، افلاطون کا قصہ                  |

## انسانی دل ایک کمپیوٹر ہے

۱۰۰

## ایک حدیث کی جدید اور انوکھی تشریع

۱۰۱

خطاب میں مخاطب کی رعایت

۱۰۲

کمپیوٹر میں تین چیزیں ہیں

۱۰۳

انسان کی تمثیل کمپیوٹر سے

۱۰۴

دل کے لئے ایمانی سافٹ ویر

۱۰۵

شیطانی سافٹ ویر

۱۰۶

حدیث مذکور کی شرح

۱۰۷

حضرات صوفیاء کا کام

۱۰۸

دل کا سافٹ ویر کہاں ملے گا؟

۱۰۹

دل کا وائرس [virus]

۱۱۰

دل کا ایٹھی وائرس (Anti-Virus)

۱۱۱

خلاصہ کلام

۱۱۲

نظم

باسمہ تعالیٰ

## تمہید

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

”فیضان معرفت“ حضرت اقدس دامت برکاتہم کے اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس کی تین جلدیں آچکی ہیں، چوتھی جلد کی ترتیب کام جب شروع کیا تو ”دل“ پر حضرت اقدس نے جو بیانات فرمائے تھے، ان کو مرتب کیا گیا تو مضمون طویل ہوتا گیا، اور با تین بھی نہایت شاندار، اور دل کو موہ لینے والی تھیں، اس لئے خیال آیا کہ کیوں نہ اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے طبع کیا جائے۔ اسی وجہ سے اس کو الگ مرتب کر دیا گیا اور اس کتاب میں حضرت اقدس کے ایک مضمون کے بھی کچھ صفحات مضمون کی مناسبت کی وجہ سے شامل کتاب کر لئے گئے ہیں۔

حضرت اقدس سے اجازت لی گئی تو آپ نے بھی اسے پسند فرمایا اور اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کا نام ”دل کی دنیا دنیا آباد بکجھے“ تجویز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کتاب سے سالکین طریقت کو بہت فائدہ ہو گا، اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے دلوں کو بھی اپنا مسکن بنالے۔

مولوی حبیب الرحمن صاحب کو اور رفیق محتزم مولانا نور اللہ صاحب اور  
مولانا امین افسر صاحب اور مولانا یاسین صاحب کو اللہ تعالیٰ جزاً خیر عطاء  
فرمائے کہ ان علماء کرام نے اس کتاب کی ترتیب و تصحیح میں میرا بھر پور تعاون فرمایا۔

محمد زبیر قاسمی

خادم جامعہ اسلامیہ مسح العلوم

۲۲ رب جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ

سُبْحَانَ اللَّهِ  
وَتَعَالَى

باسمہ تعالیٰ

## تعمیر قلب

### فضیلت - ضرورت - اہمیت

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

﴿قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لِمُضْغَةً إِذَا أَصْلَحْتُ

صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقُلُوبُ﴾

(آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: گوشِ ہوش سے سن لو بلاشبہ جسم میں ایک لوہڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے، اور سن لو وہ دل ہے)

(بخاری: ۱/۱۳، مسلم: ۸۲/۲)

### حقیقت قلب

محترم بھائیو! حدیث سمجھنے سے پہلے قلب کی حقیقت کا جان لینا ضروری ہے۔ لفظ قلب کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ ایک تو اس حم صنوبری پر جو سینے کے بائیں جانب ہے اور اس کے اندر وون میں ایک خانہ ہوتا ہے جس میں سیاہ خون بھرا ہوا ہوتا ہے، یہی منبع روح ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گوشت کا لوہڑا انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، جس کی کوئی خاص فضیلت و اہمیت نہیں ہو سکتی۔

قلب کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ ربانی و روحانی ہے جو حقائق و معارف کا دراک کرتا ہے اور ایسی اشیاء کا مشاہدہ کر لیتا ہے جن کو خیال و ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی معنی کر قرآن کی اس آیت میں قلب مراد ہے۔

﴿إِنَّ فِي ذِلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق، ۳۷]

(اس میں اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو قلب (دل) رکھتا ہے) اس آیت میں وہ صنوبری شکل مراد نہیں ہو سکتی؛ کیونکہ یہ گوشت کا لواہ تو ہر انسان بلکہ ہر حیوان کے پاس ہے تو پھر ”لمن کان له قلب“ کی قید کیسے ہو سکتی ہے؟ پس یہ قید احترازی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قلب (دل) نہیں رکھتے اور ان کو دلائل واضحہ و آیات بینہ سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، پس یہاں قلب سے دوسرے معنی مراد ہیں۔

علامہ محمود آلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ”روح المعانی“ میں رقمطراز ہیں:

”و هو في الأصل مصدر سمي به الجسم الصنوبرى في التجويف الأيسر من الصدر وهو مشرق اللطيفة الإنسانية ويطلق على نفس اللطيفة النورانية الربانية العالمية التي هي مهبط الأنوار الإلهية الصمدانية وبها يكون الإنسان إنساناً وبها يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر الخ.“ (روح المعانی: ۱/۱۳۳)

(اور وہ قلب اصل میں مصدر ہے جس سے جسم صنوبری کو موسم کیا گیا ہے جو سینے کے باسیں ضوف میں رکھا گیا ہے اور یہ لطیفہ انسانی کو روشن کرنے والا ہے اور (قلب) خود اس لطیفہ نورانیہ ربانیہ پر بھی بولا جاتا ہے جو انوار الہیہ کا مهبط ہے، اسی لطیفہ نورانی سے انسان انسان بنتا ہے اور اسی کی مدد سے انسان اللہ کے دعے ہوئے

حکموں (اوامر) کو بجالانے اور اس کی منع کردہ چیزوں (نواهی) سے نپنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔)

اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے قلب کو معرفت حق کا منبع و محل اور اسرار و حکم کا مخزن و معدن کہا جاتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قلب کوئی محسوس شی نہیں جس کو مخزنِ حقائق و معدنِ دقاقيق قرار دیا جائے بلکہ وہ ایک معنوی حقیقت ہے جس کا حاسہ بصر سے ادراک نہیں ہو سکتا۔

### حدیث میں قلب کا مصدق

اس حدیث پاک میں مضغہِ حُم و شکل صنوبری پر قلب کا اطلاق کرنے ساتھ ساتھ اس کو جسم کے صلاح و فساد کا مدار قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے جسمانی صلاح و فساد مراد نہیں بلکہ معنوی صلاح و فساد مراد ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ حضرت شارع علیہ السلام کا منصب جسمانیات سے بحث کرنا نہیں ہے۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے کہ صلاح قلب یا فساد قلب، صلاح جسم یا دوسرے امراض جسمانی میں وہ لوگ بتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں جو دوسرے امراض جسمانی سے محفوظ ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ صلاح و فساد سے معنوی صلاح و فساد مراد ہے نہ کہ جسمانی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے صلاح و فساد معنوی کو اس صنوبری شکل اور مضغہِ حُم کے صلاح و فساد پر کیونکر مرتب فرمایا جب کہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ چونکہ قلب کے بمعنی لطیفہ ربانی میں اور قلب بمعنی مضغہِ حُم میں ایک مناسبت اور تعلق خفی ہے؛ اس لئے آپ نے ایک کا اطلاق

دوسرے پر فرمادیا ہے۔ اب رہا یہ کہ تعلق کس نوعیت و کیفیت کا ہے؟ تو اس کے ادراک سے ہم عاجز ہیں جیسے روح و جسم کا تعلق کہ اس کی نوعیت بھی عام عقول و اذہان کے میطہ ادراک سے باہر ہے، حالانکہ اس تعلق کا انکار ممکن نہیں بس ایسے ہی بیہاں سمجھ لیا جاوے۔ البتہ بعض حضرات کو اس تعلق کی نوعیت و کیفیت کا بطور کشف و الہام ادراک ہو جاتا ہے، لیکن یہ حضرات بھی دوسروں کو یہ نوعیت سمجھانے سے قاصر رہتے ہیں؛ کیونکہ یہ محض ایک وجودی چیز ہے جو الفاظ کی تعبیر میں سما نہیں سکتی اور الفاظ میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ اس کو اپنے اندر سمو سکے۔

### انسان شکل و صورت سے نہیں بنتا

محترم حضرات! دنیا کے انسانوں میں آپ غور کریں تو آپ کو دو طرح کے انسان ملیں گے، ایک وہ جو صرف ظاہراً انسان کہلا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، آپ کو انسان نظر آئیں گے، مثلًا ان کے ناک کان ایسے ہی ہوں گے، جیسے عام انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اعضاء جسم ایسے ہی ہوں گے جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کچھ انسانوں کی طرح، لیکن دل ان کا انسانوں جیسا نہیں ہوتا، ان کا دل تو ایک شیر اور بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، کسی خونخوار درندے کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صفات بھی درندوں جیسی ہوتی ہیں۔ ظلم کرنا، زبردستی کرنا، مار توڑ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، وغیرہ۔ یہی ان کا مشغله اور پیشہ ہوتا ہے۔

ابھی ایک خبر آپ نے اخباروں میں پڑھی ہو گی کہ ایک لڑکی کو اس کے شوہر اور اس کے خاندان والوں نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ کیا یہ ان کے اندر خون خوار مادہ

ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ کیا یہ درندہ پن نہیں ہے؟ آپ ان کو جا کر دیکھئے کہ ان کی آنکھ، ان کا چہرہ آپ ہی کی طرح ہے، ان کی چال ڈھال اور اسی طرح ان کا رہن سہن آپ ہی کی طرح ہے لیکن اندر کی جو چیز ہے وہ انسانوں جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ ریپکھا اور باگھ کی طرح ہے۔

تو یہ انسان باوجود اس کے کہ اس میں انسانی اعضا بوجہ اتم موجود ہیں، لیکن اگر اس کا دل بنا ہوانہ ہو تو یہ نامکمل انسان ہے، اصل انسان صورت و شکل کا نہیں ہوا کرتا بلکہ اصل انسان جسے کہتے ہیں وہ دل کے بننے سے بنتا ہے، ظاہر آتو سے انسان کہیں گے؛ لیکن باطنًا اسے انسان نہیں کہا جاتا، جیسے ابو جہل ظاہر کے اعتبار سے انسان تھا لیکن حقیقت کے اعتبار سے شیطان تھا، فرعون ظاہر آ تو انسان تھا لیکن دل کے اعتبار سے وہ شیطان سے بھی بدتر تھا۔

دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کا ظاہر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور باطن یعنی دل بھی کامل انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ ان کا دل عشق خداوندی سے لبریز ہوتا ہے، دولت معرفت سے سرشار ہوتا ہے، محبت الہی سے معور ہوتا ہے۔ یہی لوگ دراصل حقیقی انسان کا مصدق ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے انسان کا ہونا انسانیت کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ دل کا بنا ہونا ضروری ہے۔ اور انسانوں کی فلاح و نجات کا دار و مدار بھی دل کے بننے و سنورنے پر ہے، ظاہر کے سنورنے پر نہیں۔

### انسان دل کو بنانے کا مکلف ہے

جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی

حَلَّى لِفَتَنَةٍ وَسَلَّمَ دلوں کو سنوارنے کی، اور دل کو دل بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی حَلَّى لِفَتَنَةٍ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْظُرُ إِلَيْ صُورَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَيْ قُلُوبُكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ“  
(مسلم: ۲۵۶۳)

( بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے )

اس حدیث سے بھی علم ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بنائیں، ظاہر بنانا ہمارا کام نہیں، ظاہر تو اللہ نے بنادیا ہے، جس کو جیسی شکل دینی تھی، اللہ نے دے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ﴾ (۱) اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے ربِ کریم سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، پھر تجھے جس شکل میں چاہا ترکیب دیا۔) [الانفطار: ۶]

اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو جسم بناچکا، رنگت و صورت بھی تجھے جتنی دینی تھی دیدی، اب کوئی گورا، کالا یا کوئی کالا، گورا نہیں ہو سکتا، اور میرے نزدیک اس ظاہر پر فیصلے ہونے والے بھی نہیں ہیں، فیصلے تو باطن پر ہونے والے ہیں۔

معلوم ہوا کہ انسان دل کو بنانے کا مکلف ہے، اور اسی پر نجات کا مدار ہے۔

خوبصورتی نے ابو لہب کو کامیاب نہیں کیا

جی ہاں! جب ظاہر پر آخرت میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں تو کسی کا حسین

ہونا، اس کی کامیابی کی دلیل نہیں اور کسی کا بد صورت ہونا، اس کی ناکامی کی دلیل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھا، اور ابو لہب کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا، اس کا اصل نام تو عبد العزیز تھا، لیکن اس کو لوگوں نے ابو لہب اس لئے کہا کہ وہ بڑا حسین و خوبصورت تھا، عربی میں ”لہب“ کے معنی آتے ہیں ”آگ کی لپیٹیں“۔ جب آگ اٹھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لپٹوں میں کیسی چمک ہوتی ہے اور کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ پکڑ لیں، لیکن نتیجہ معلوم ہے اس لئے نہیں پکڑتے۔

ابو لہب بھی اسی طرح بڑا ہی خوبصورت تھا، چہرے پر اندر سے خون کی ڈوریاں ایسی محسوس ہوتی تھیں، جیسی کہ آگ کی لپیٹیں آر رہی ہوں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے ”ابو لہب“ کہا۔ لیکن قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيِّصُلَى نَارًا أَذَاتَ لَهَبٍ﴾  
[اللهب]

(ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ بر باد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہو گا) اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ”ابو لہب“ کے ساتھ ملا کر یہ کہہ دیا کہ یہ ظاہر میں ابو لہب تھا اور حقیقت میں بھی آگ میں جانے کے قابل ہے، عنقریب وہ جہنم میں جائیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ظاہری حسن اس کے کچھ کام نہ آیا، اگر ظاہری حسن کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو ابو لہب ناکام نہ ہوتا۔

بد صورتی نے حضرت بلاں ﷺ کو ناکام نہیں کیا  
اچھا! اب اس کے مقابلہ میں حضرت بلاں حبشی ﷺ کو دیکھئے کہ وہ ظاہر میں

کالے لکوٹے تھے، بظاہر بد صورت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اوپنچا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے نبی حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ایک بار بعد نماز فجر کے حضرت بلاں سے فرمایا کہ اے بلاں! مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام میں وہ کون سا عمل کیا ہے جو زیادہ قابل امید یعنی ثواب کی امید والا ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں میرے آگے تمہارے جھوٹوں کی آواز محسوس کی ہے۔ حضرت بلاں نے عرض کیا کہ میں نے جب بھی وضو کیا رات میں یادن میں تو ضرور حسب توفیق نماز پڑھی ہے۔ (بخاری: ۱۱۳۹) یہ واقعہ بعض علماء کے نزدیک معراج کا ہے اور بعض نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تھا۔

بھائیو! یہ بلاں جبشی ﷺ کا مقام ہے، صورت میں تو کالے و بھوٹے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اتنا اوپنچا، اس لئے کہ انہوں نے اپنے دل کو دل بنالیا تھا، جنہوں نے بھی اپنے دل کو دل بنالیا، ان کا یہ مقام ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنے دل کو پھر کی سل بنالیا، ان کا انعام بھی آپ نے سن لیا کہ ابوالہب کا کیا حشر ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز دل کو بنانے کی محنت ہے، اس لئے آدمی کو چاہئے کہ اپنے دل کو بنانے کی فکر میں لگ جائے اور اپنے آپ کو واقعی انسان بنانے کی فکر میں اور جدوجہد میں لگا دے۔

### افسوس کہ ہم ظاہر کے سنوارنے میں لگ گئے

عجیب بات بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے جسموں کو بنا کر بھیج دیا ہے، اور بہت ہی عمدہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے جسموں ہی کے بنانے میں لگے ہیں، عورتیں اپنے آپ کو حسین و خوبصورت بنانے کیلئے بیوی پارلر جاتی ہیں، چہروں کی خوبصورتی کے لئے ہزاروں روپے خرچ کرتی ہیں، کبھی

بالوں کو ٹھیک کرنے کے لئے محنت کرتی ہیں، اسی طرح کپڑے بھی عمدہ سے عمدہ پہننے کی کوشش کرتی ہے، اور کبھی ظاہری زیب و زینت کے لئے ناجائز کاموں کا بھی ارتکاب کرتی ہیں، مثلاً بعض عورتیں مردوں کا لباس اختیار کر لیتی ہیں جس پر اللہ کے نبی ﷺ نے لعنت کی ہے۔

بعض عورتیں ہتھیلوں اور ناخنوں پر ایسا رنگ چڑھاتی ہیں، جو ان پر کوٹ ہو جاتا ہے، اور وضو کے پانی کے پہنچنے کے لئے حائل بن جاتا ہے، جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی؛ لیکن آج کل عورتوں کو حسین بنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ جائزونا جائز تک کالحاظ نہیں کرتیں۔

اسی طرح مرد حضرات بھی حسین نظر آنے کے لئے ڈاڑھی منڈادیتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کے متراوف ہے، پھر ویسے بھی کوئی ڈاڑھی منڈانے سے حسین نظر نہیں آتا بلکہ اور بد شکل ہو جاتا ہے۔

بھائیو! کیا ہم سب اپنے دلوں کے بنانے اور سجائے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ اتنی کوشش کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دل غبار آلو د بلکہ زنگ آلو د ہو چکا ہے، دل پر گناہوں کے سیاہ نقطے لگتے لگتے دل بالکل کالا ہو چکا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دل کو منور کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ظاہر کو سنوارنا جو کہ ایک غیر ضروری امر ہے اس کے پیچھے ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اس کے لئے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن افسوس کہ دل کو سنوارنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے۔

**دل کی حالت کے سلسلہ میں اللہ کے نبی ﷺ کی فکر**

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ بار بار دعا میں فرمایا

کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ ثِبْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ“ (اے اللہ! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا) اور کبھی کہتے تھے: ”يَا مَقْلُبَ الْقُلُوبِ ثِبْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ“، (اے دلوں کو والٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر جادے) یہ دعائیں بار بار کرتے تھے۔

متعدد صحابہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک وغیرہ سے مردی ہے، ان میں سے ہر ایک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم غیر مسلم تھے آپ کی بدولت ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اب ہم الحمد للہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار یہ دعا کرتے ہیں، کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے؟ کیا یہ دل کبھی پلٹ جائیگا؟ - سوال دیکھنے کتنا دقیق ہے؟ کتنا غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”انَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَاعَيْنِ مِنْ أَصْبَاعِ الرَّحْمَنِ يُقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ“ (یہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں میں ہیں، وہ جس طرح چاہے ان کو والٹ پلٹ کرتا ہے)

(سنن الترمذی: ۲۱۳۰، و ۳۵۲۲، الاحادیث المختارة: ۳۰۰، اتحاف الخیرۃ

المهرة: ۲۷۰، مشکوہ: ۲۲)

یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہاں ہاں یہ دل تو ایسی ہی چیز ہے کہ لمبے میں یوں تو لمبے میں یوں - معلوم ہوا اس سلسلہ میں بڑے ہی با شعور اور متیقظ رہنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ایسا ہی چھوڑ دیا جائے اور ایسی ہی زندگی گزار دی جائے، اور اگر یوں ہی والٹ پلٹ کا سلسلہ جاری رہے تو صبح میں مومن ہے تو شام میں کافر، شام میں مومن تو صبح میں کافر ہونے کا سلسلہ رہیگا۔ کوئی شیطانی کھیل کھیل رہا ہوگا، یہاں تک کہ

اسی الٹ پلٹ کے اندر اس کی زندگی گز رجا یگی اور اسی طرح وہ لب گور پہوچ جائیگا، اس لئے فکر کی ضرورت ہے۔

### حضرت عیسیٰ ﷺ کی نظر میں قابل تعظیم دل

حضرت سیدنا عیسیٰ ﷺ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے مجازات عطا کیے تھے، اس میں ایک مجذہ ان کا یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، راستے میں ایک جگہ قبرستان پر سے گزر رہوا، ان کے اوپر کچھ حواریین ان کے ساتھ تھے، حضرت عیسیٰ ﷺ نے دیکھا کہ وہاں ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اس کھوپڑی کو اٹھایا اور اس کے کان کے سوراخ میں انہوں نے کچھ ڈالنا چاہا؛ لیکن اس میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی، حضرت سیدنا عیسیٰ ﷺ نے اس کھوپڑی کو زور سے پھینک دیا، پھر آگے بڑھے، ایک اور کھوپڑی ان کو نظر آئی، اس کھوپڑی کو اٹھایا اور اس میں بھی انہوں نے کوئی چیز کان کی طرف سے گھسانی چاہی تو وہ اندر گھس گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی، حضرت عیسیٰ ﷺ نے اس کھوپڑی کو بھی زور سے پھینک دیا اور پھر اس کے بعد ایک اور کھوپڑی ملی، اس کھوپڑی کو بھی اٹھایا، پھر اس میں بھی کچھ داخل کیا تو ایک کان میں وہ چیز گھس کر اندر رہ گئی۔

حضرت عیسیٰ ﷺ نے اس کو بوسہ دیا اور پھر ادب سے لیجا کر ایک جگہ دفن کر دیا، آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ایک کھوپڑی کو آپ نے دیکھا پھینک دیا اور ایک کھوپڑی کو دیکھا اس کو پھینک دیا یہ تیسرا کھوپڑی اٹھائی اور پھر اس کو دیکھا، بوسہ دیا، لیجا کر دفن کیا، کیا قصہ ہے؟

عیسیٰ ﷺ نے کہا: پہلی کھوپڑی وہ ہے کہ اس کے کان میں کوئی حق بات گھستی ہی نہیں تھی، یہ اتنا بڑا کافر تھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاس آتے تھے، اللہ کی

باتیں اس کو سنائی جاتی تھیں؛ لیکن اتنی سختی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ اس سختی کا اثر کانوں پر بھی ہو گیا تھا؛ اس لئے کان اس بات کو سنتے بھی نہیں تھے، اس لئے میں نے اس کھوپڑی کو اٹھا کر پھینک دیا کہ یہ قابل تعظیم و تکریم نہیں ہے؛ بلکہ یہ تو قابل توہین ہے، قابل تذلیل ہے۔ دوسری جو کھوپڑی ملی وہ مومن کی کھوپڑی تھی وہ مومن تھا، مانتا تھا، سنتا تھا، لیکن ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتا تھا؛ اسی بات کی جانب اشارہ تھا اس چیز میں بھی جس کو میں نے اس کے کان داخل کیا تھا کہ وہ بھی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی۔

مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا لیکن وہ دل میں نہیں اترتی تھی اور اس کا دل اس قدر سخت تھا کہ کان تو اسے سنتے تھے؛ لیکن دل اس کا قبول نہیں کرتا تھا۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہونگے کہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں؛ لیکن وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، دل کے اندر رکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

پھر حضرت عیسیٰ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اسکو بھی قبل تعظیم نہیں سمجھا؛ اس لئے اس کو بھی پھینک دیا۔

اور جو تیسری کھوپڑی ملی تھی یہ مومن کامل کی کھوپڑی تھی، مومن بھی تھا، مومن کامل بھی تھا، کمال اس کے اندر تھا، انبیاء کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا؛ لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا نہیں تھا؛ بلکہ ایک کان سے سنتا تھا اور دل کے اندر اتار لیتا تھا؛ اس لئے جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی تو اندر رہ گئی۔

بھائیو! سوچنے کی ضرورت ہے آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ اس کے

اندر سختی کہاں سے کہاں تک پھوٹ گئی ہے۔ دین کی باتیں دل میں اثر ہی نہیں کر رہی ہیں۔ دلوں کی سختی کو ہٹایا جائے اور دلوں کو زم کیا جائے، اس کے لئے محنت کرنا ہو گا اور کسی بھٹی میں ڈال کر اس کو تپانا اور پکانا ہو گا۔

### دل کے اندر معرفت کا چشمہ جاری کر لیں، ایک تمثیلی واقعہ

مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ نے عالی شان محل بنایا، بہت بڑا مبارکبادینے کے بعد اس نے سوچا کہ یہاں پانی کا نظم بھی ہونا چاہئے؛ اس لئے کہ سب کچھ موجود ہوا اور پانی ہی نہ ہوتا کیا فائدہ ہو گا؟ اور لوگ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ تو ہاں قریب میں ایک نہر بہتی تھی، بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس نہر سے ایک شاخ کھود کر محل کے اندر لے لی جائے اور مختلف جگہ پر اس کو بہادیا جائے اور اس طرح بہادینے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سب جگہ پانی بھی پھوٹھا رہے گا اور دیکھنے میں حسین اور خوبصورت بھی لگے گا۔

اس نے اپنی مشیر ول کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ دیکھو ہمارے محل میں پانی کا کوئی نظم نہیں ہے؛ لیکن ہمارے محل کے باہر ذرا سے فاصلہ پر ایک بہت بڑی نہر بہتی ہے، جس کا پانی بڑا ہی صاف و شفاف اور بڑا ہی حلاوت آمیز ہے، اس نہر کی ایک شاخ کاٹ کر میں اپنے محل میں جاری کرنا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضور بہت اچھا، اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہو گا؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ نہیں نہیں! یہ بہتر نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کیا خطرہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں میری رائے یہ ہے کہ باہر کی نہر اندر لانے کے بجائے اندر ہی کنوں کھو دلتے جائیں، مختلف جگہوں پر کنوں کھو دلتے جائیں اور یہ

کنوں اندر ہوں گے اور آپ جتنا چاہیں پانی نکال سکتے ہیں۔

لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھنے میں اچھا نہیں معلوم ہوتا، یہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہر ہمارے محل کے اندر کاٹ کر لائی جائے اور اسے مختلف جگہوں پر بہایا جائے، اس میں حسن اور خوبصورتی ہے اور پھر پانی کا پانی بھی۔

اس آدمی نے کہا کہ میری تواریخی ہے کہ اندر نہر کھودی جائے، باہر نے نہر نہ لائی جائے؛ لیکن چونکہ وہاں کی اکثریت کی رائے بادشاہ کے رائے کے موافق تھی؛ لہذا اسی پر عمل کیا گیا اور نہر کاٹ کر محل میں لے لی گئی، پانی بہترین آرہاتھا، خوش نما بھی لگ رہا تھا، لوگ اس سے استفادہ اور انتفاع بھی کر رہے تھے اور زندگی بڑی اچھی گز رہی تھی۔

لیکن چند سالوں بعد ایک اور ملک کے بادشاہ نے اس ملک پر حملہ کرنا چاہا اور دونوں کے درمیان ایک سیاسی جنگ چھڑ گئی، اس جنگ کا ارادہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ آ کر اس کے محل کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کے محل کے لئے جس نہر سے پانی بہتا تھا، وہاں ایک مینڈھ لگا دیا اور آکر برآ جمان ہو کر بیٹھ گیا کہ اب باہر کا پانی اندر نہیں جائیگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پانی اندر جا چکا تھا وہ توجا چکا تھا؛ لیکن اب باہر سے اندر کے لئے پانی پر مینڈھ لگ چکی تھی اور اندر جو پانی تھا، وہ خرچ ہوتا رہا، ہوتا رہا بیہاں تک کہ ایک دن پانی ہی بند ہو گیا، اب بادشاہ اور تمام ارکان سلطنت پر بیشان کہ اب کیا ہو گا؟ پانی تو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے۔

اب وہ مشیر آیا جس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور محل کے اندر نہر سے شاخ لانے کا ارادہ نہ کیجئے گا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے، اس نے آکر کہا کہ حضور

میں نے تو آپ کو پہلے ہی آگاہ و متنبہ کر دیا تھا کہ آپ جو باہر کی لذت اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بآخر ناک کام ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کر بیٹھ جائے، جیسے یہ بیٹھ گیا تو خطرہ پیش آنے کا امکان تھا؛ اسی لئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باہر کی چیز اندر لانے کے بجائے اپنے اندر سے ہی پانی پیدا کر لیں۔ اب وہ سر پکڑ کر پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائی! تیری بات تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آ رہی ہے۔

بس مولانا روم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ تمام سالکین طریقت کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری یہ جو (Body) ہے، اسے بادشاہ کا محل سمجھو، اس بادشاہ کے محل میں اندر ایک دل موجود ہے، اس دل کے اندر آپ معرفت کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، محبت الہی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، خوف خداوندی کا چشمہ کھو دسکتے ہیں، اس کے اندر صبر و توکل کے چشمے جاری کر سکتے ہیں؛ لیکن عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ باہر کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھ و پیرسے لذت لیتے ہیں یہ باہر کی لذت ہے، جو باہر کا پانی آپ کو دیتی رہتی ہے اور وہ بھی سڑا ہوا پانی آپ کو دیتی ہے، اچھا پانی بھی نہیں دیتی، یہ باہر کا سڑا ہوا اور گند او گدلا پانی آپ کی آنکھ کے ذریعے، آپ کے کانوں کے ذریعہ، آپ کے دل میں پڑ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے؛ لیکن جوں ہی اس (Body) کا مخالف یعنی موت کا فرشتہ آ جائیگا اور باڑا گا دیگا تو سوائے اس کے کہ اندر انہیں اچھا جائیگا اور کیا رہیگا؟

کہتے ہیں کہ اب پہلے سے چشمیں کا تو اندر کوئی انتظام نہیں ہے، معرفت و محبت کا چشمہ وہاں نہیں ہے، خوف خداوندی کا چشمہ وہاں نہیں ہے؛ اسی طرح

دیگر چشمے وہاں نہیں ہیں، دل کو سیراب کرنے کا کوئی نظام وہاں اندر نہیں بنایا گیا، اور یہ باہر کی لذتیں اس وقت بند ہو جاتی ہے، جس وقت موت کا فرشتہ آ کر موت کا حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس میت سے پوچھ لیجئے کہ کیا آنکھ سے مزہ آ رہا ہے؟ کان سے مزہ آ رہا ہے؟ سننے دیکھنے اور پکڑنے کے مزے آ رہے ہیں؟ اور مختلف قسم کے مزے تو لے کر زندگی گزار رہا تھا، کیا ان میں سے کوئی مزہ تھک کو آ رہا ہے؟ وہ بزبان حال کہے گا کہ نہیں، سب بے کار ہے، کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ ہے ”ہادم اللذات“ کا حملہ، جب باہر سے حملہ ہو جائیگا تو بھائیو باہر کی کوئی چیز کام نہیں آئیگی۔

اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا کیا چاہئے؟ جواب یہی ہے کہ جیسے اس مشیر نے بادشاہ کو رائے دی تھی ک محل کے اندر ایک نہر کھونے کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کے اندر ایک نہرِ محبتِ الہیہ کی کھونے کی ضرورت ہے، ایک نہرِ معرفتِ الہیہ کی کھونے کی ضرورت ہے، ایک خشیتِ الہیہ کی کھونے کی ضرورت ہے؛ تاکہ جب موت کا فرشتہ حملہ کر کے باہر کی لذتوں کو روک دیگا تب بھی دل کی لذتوں سے آپ سیراب ہوتے رہیں، اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔

اگر کوئی دل کے اندر یہ خزانے پیدا کرنے کے بجائے ظاہری اعضاء کے بنانے و سنوارنے میں لگ جائے گا تو اسے قیامت کے دن بہت افسوس ہو گا مگر وہاں افسوس کرنا کچھ کام نہ آیا گا۔

### ذکر اللہ سے غافل دل مردہ ہوتا ہے

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بائزید بسطامی سے ملاقات کے شوق میں اپنے وطن سے نکلا، سفر کرتا ہوا ایک راستہ میں ایک جگہ درخت کے سامنے میں آرام کرنے لیتا

تودیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، اور یہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا۔ ان میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کے نیچے ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا: باہ یہ بایزید بسطامی کے پاس جا رہا ہے، تو اس چڑیا نے کہا: ان کا توان تعالیٰ ہو گیا، یہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا، اور واپسی کا ارادہ کر لیا، پھر سوچا کہ جب نکلا ہی ہوں تو جا کر زیارت کروں، پھر آگے سفر جاری رکھا، اور بایزید بسطامی کے پاس پہنچا، تودیکھا کہ وہ توباحیات ہیں، ملاقات کی، گفت و شنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت! ایک بات پوچھنا ہے، پھر چڑیا والا سارا قصہ سنایا، بایزید بسطامی چونکے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کا واقعہ ہے، حضرت بایزید کہنے لگے کہ ہاں بھائی! چڑیا بھی کہہ رہی تھی، اس وقت کچھ دری کے لئے میرا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا، اللہ سے دل کا غافل ہونا، دل کا مردہ ہونا ہے۔

اللہ اکبر! ہمارا حال کیا ہے، ان کا دل تو کچھ دری کے لئے مردہ ہوا تھا، ہمارا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہئے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا دھیان رکھنا چاہئے، تاکہ دل مردہ نہ ہو۔

### حضرت مسیح الامت رَحْمَةُ اللَّهِ كی ایک تقریر کا خلاصہ

مجھے میرے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی ایک تقریر یاد آگئی، وہ یہ کہ آپ نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے گھروں کو صاف کرنے کے بعد یہودیوں کی طرح اپنے صحن کو ناپاک نہ رکھو، اس لیے کہ یہودی ایسے ہی کرتے ہیں۔“ (مشکوہ: ۳۵۸)

یہ حدیث سنائے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو بھی ناپاک اور گندہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کو بھی گھر کے باہر کے حصے کو بھی ناپاک اور گندہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کو بھی صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو گھر کی صفائی کرنے کا توبدرجہ اولیٰ حکم ہوگا، اور جب گھر کی صفائی کا حکم ہے تو ہمارے کپڑوں کو صاف کرنے کا تو اس سے زیادہ حکم ہوگا، اس لیے کہ گھر تو ہم کو لوگا ہوا نہیں رہتا، کپڑے تو ہمارے جسم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب کپڑوں کی صفائی کا حکم ہے تو وہ جسم جس کے لیے کپڑے ہیں وہ کیوں پاک نہیں ہونے چاہئیں؟ وہ تو اس سے زیادہ پاک ہونے چاہئیں اور جب ظاہری جسم کو پاک کرنے کا حکم ہے تو اس جسم کا جواہر مل ہے یعنی ان دوران و باطن جس کو قلب کہتے ہیں، اس کی صفائی تو سب سے زیادہ ہونا چاہئے، اس لیے کہ قلب اصل ہے، ظاہری جسم اس کی سواری کی طرح ہے تو جب ظاہری جسم ہی کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو اندر والے کو کیوں حکم نہیں ہوگا کہ وہ پاک و صاف رہے۔

جیسے کار کو دھونے کا حکم ہو تو اندر کار میں بیٹھنے والے صاحب کیا پا خانہ سے ملوث رہیں گے؟ بھائیو! جب ہم کار کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی پاک ہو اور اس کا اوپر والا حصہ بھی صاف ہو، پیچھے کپڑہ نہ لگا ہو، سامنے کچھ نہ لگا ہو، دھول نہ لگی ہو تو کیا ہم کار کے اندر ایسے شخص کو بٹھانا گوارا کریں گے جو ایک گندے نالے میں ڈوبا ہوا ہو؟ کیا کوئی اس کو سیدھے لا کر سیٹ پر بٹھا دے تو ہم گوارا کریں گے؟ نہیں، اسی طرح جسم تو ہو صاف مگر دل ہو گندہ تو اللہ کو یہ کیسے پسند آئے گا؟

جب اوپر کے حصہ کو اتنا صاف کر رہے ہیں تو اندر بیٹھنے والا تو سب سے زیادہ صاف ہونا چاہئے۔ جب ہمارے جسم کو ہم صاف کر رہے ہیں جو کہ کار کے مانند ہے تو اندر جو کار میں بیٹھنے والا ہے، یعنی دل وہ تو اس سے زیادہ پاک و صاف ہونا چاہئے۔

## انسانوں کے قلوب میں سختی و نرمی

### اسباب - - سخن

آپ کے سامنے دل کو بنانے کی ضرورت اور اہمیت و فضیلت آچکی، اب یہ بھی جان لینا چاہئے کہ انسان کے دل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتے ہیں جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور اسی نرمی کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر اچھائیوں کو بویا جاسکتا ہے، اچھی چیزیں اس میں داخل کی جاسکتی ہیں اور پھر جب اچھی چیز بوئی جاسکتی ہے، داخل کی جاسکتی ہے تو اس میں سے اچھی چیزیں اگ بھی سکتی ہیں اور باہر نکل بھی سکتی ہیں اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہیں۔

دوسرے وہ قلوب ہیں جن کے اندر سختی ہوتی ہے، جیسے کے پتھر میں سختی ہوتی ہے، ایسے دلوں کے اندر نہ کوئی اچھی چیز گھس سکتی ہے، نہ اسی میں کوئی اچھی چیز بوئی جاسکتی ہے، نہ اگائی جاسکتی ہے نہ کوئی اچھی چیز اس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

یہ دو قسم کے دل ہوتے ہیں انسانوں کے، جو دل نرمی والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور جو قلوب سختی والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مردود ہوتے ہیں، ملعون ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں۔

آپ قرآن و حدیث کے نصوص میں غور و فکر کریں گے تو یہ دونوں قسم کے قلوب کا آپ کو اندازہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿ثُمَّ قَسْطُ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِذِلَكَ فَهَيَ كَالْحِجَارَةِ أَشَدُ قَسْوَةً﴾

(اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ ایسے ہیں جیسے کہ پتھریا  
پتھر سے بھی زیادہ سخت) [البقرة: ۷۳]

حُقَّاقَ كَوْبَاتَنَے کے بعد، معجزات اور قدرت کے عظیم مظاہر کو پیش کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں میں سے بعض دل وہ ہوتے ہیں جن میں سختی ہوتی ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی اچھائی داخل نہیں ہو سکتی، جیسے پتھر کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔

وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور علم دیکر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خوب بارش ہو جو زمین پر پڑے۔ پس اس میں سے ایک زمین نقی و پاکیزہ تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور اس سے گھانس وغیرہ اگ آئی ہے، اور ایک زمین بخربھی جس نے پانی کو رکھا، پس اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا کہ اس سے انہوں نے خود پانی پیا اور دوسروں کو پلایا اور بھیتی کی، اور ایک ایسی زمین پر بھی یہ پانی پڑا جو محض چیل تھی، جونہ تو پانی کو رکھ کر جمع کر سکتی تھی اور نہ کوئی چیز اگا سکتی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اس کی جو دین کی سمجھ پیدا کرتا ہے اور علم حاصل کرتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور اس کی مثال ہے جو اس علم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اس حدایت کو جس کو دیکر اللہ نے مجھے بھیجا ہے قبول نہیں کرتا۔

(بخاری: ۹: ۷، مسلم: ۹۳: ۶۰)

اس حدیث میں تین قسم کی زمینوں کو بیان کر کے تین قسم کے دلوں سے تشبیہ دی

گئی ہے۔ یعنی ایک دل وہ ہوتے ہیں جو زم و گداز ہوتے ہیں جب پانی پڑتا ہے تو فوراً اندر جذب ہو جاتا ہے، جذب ہونے کے بعد اس کے اندر بڑی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، ایک زمانہ آئے گا کہ چیزیں اگیں گی اور مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچا رہے گا۔ اسی طرح دل بھی علم وحدایت اور نیکیوں خوبیوں کو جذب کر لیتے ہیں اور ان سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔

دوسرے وہ دل جو علم وحدایت اور خوبیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؛ بلکہ صرف اوپر اوپر سے سن لیتے ہیں، یہ بھی اس قدر بے نہیں، کیونکہ ان سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ سنی ہوئی باتیں کبھی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھایتے ہیں۔

اور تیسرا وہ دل ہیں جو سخت ہونے کی وجہ سے پتھر جیسے ہیں اور ان میں نہ تو پانی قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ کچھ اگانے کی، یہ اللہ کا پیغام حدایت اور علم آتا ہے تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے اس کو دیکھنا اور اس کی جانب نظر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں؟ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ آج عام طور پر دلوں کا حال یہ ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے، اتنی سختی کہ قرآن سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا، حدیث سے اثر نہیں ہوتا، اللہ کی بات آتی ہے اثر نہیں ہوتا، قرآن کا حکم آتا ہے، اثر نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے اثر نہیں ہوتا، اثر تو کیا ہوتا اس قدر وہ ان کے نزدیک بے اثر ہوتے ہیں کہ اس کو سن کر اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی فکر کرتے ہیں، اسے چھینکنے کی فکر کرتے ہیں، سننا تک گوارہ

نہیں ہوتا۔

### قصاوٹ قلب کبیرہ گناہ ہے

قصاوٹ قلب اسی لئے اس قدر بڑی و بدتر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خدا ہی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن حجر کلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی سختی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس پر ایک حدیث سے دلیل لی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ:

”اطلُّبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحْمَاءِ أُمَّتِي ، تَعْيِشُوا فِي أَكْنافِهِمْ ، وَلَا  
تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فِيَّا لِلَّعْنَةِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ“

(نیکی، بھلائی تو میری امت کے رحم دل لوگوں سے حاصل کرو اس طرح کہ ان کی چوکھٹ پر جا کر پڑ جاؤ اور ہاں اس نیکی کو سخت دل لوگوں سے طلب نہ کرو ان پر تو خود لعنت برستی ہے) (الزوج عن اقتراض الكبائر: ۲۰۲/۱)

اور ابن حجر کلی ہی نے امام خراطی کے حوالے سے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ سُخْطِي“ (یہ سخت دل لوگ میرے غضب کا انتظار کر رہے ہیں)

(الزوج عن اقتراض الكبائر: ۱/۲۰۲)

### قصاوٹ شقاوت کی دلیل

ایک اور حدیث سے قصاوٹ کی برائی کا اندازہ کیجئے کہ اس میں قصاوٹ کو شقاوت یعنی بد سختی کی علامت کہا گیا ہے۔

حضرت انس رض کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:  
أَرْبَعَةٌ مِّن الشَّفَاءِ : جُمُودُ الْعَيْنِ ، وَقَسَاءُ الْقَلْبِ ، وَطُولُ الْأَمْلِ ،  
وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا ” (چار چیزیں شفاوت یعنی بدختی میں سے ہیں: ایک  
آنکھوں کا جمود یعنی نہ بہنا، دوسرا دل کی ختنی، تیسرا لمبی آرزو اور چوتھے دنیا کی حرص)  
(مسند البزار : ۲۳۳۲، حلیۃ الاولیاء : ۱۷۵/۲)

اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں سخت دل والے کو اللہ سے سب سے زیادہ  
دور قرار دیا گیا ہے، امام ترمذی وغیرہ حضرات نے حدیث نقل کی کہ حضرت ابن عمر  
رض نے رسول اللہ نے فرمایا کہ: ”وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسَ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِيِّ“  
(لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ قلب ہے جو سخت ہو)

(ترمذی: ۲۳۱۱، الدعاء للطبرانی: ۵۶/۲، الاحکام الشرعیة: ۲۸۳/۳)

جامع الاصول: ۱۱/۲۷۴)

اس سے معلوم ہوا کہ سخت دلی کس قدر بڑی و ناپاک چیز ہے کہ سخت دل انسان  
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔

**اللہ کے نبی نے سخت دلی سے پناہ مانگی ہے**

یہاں تک کہ ہمارے نبی ﷺ نے قساوت قلبی سے پناہ مانگی ہے،  
احادیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ اپنی دعا میں یہ  
بھی کہتے تھے: ”اللَّهُمَّ أَنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشُعُ“ (اے اللہ! میں  
ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو)

(نسائی: ۵۴۵۸، ترمذی: ۳۳۸۲)

غور کیجئے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ قسالت و سخن والے دل سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو یہ چیز کس قدر بری ہو گی؟

### دلوں میں سختی کے اسباب

سوال یہ کہ ہمارے دلوں میں سختی کیوں آتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں؛ لیکن ان سب میں بنیادی وجوہات جن کی طرف توجہ دینے سے دیگر وجوہات خود ہی ختم ہو جاتی ہیں وہ تین بڑی باتیں ہیں جن کی وجہ سے قلوب میں سختی پیدا ہوتی ہے اور دل پھر بن جاتے ہیں۔

(۱) دنیا کی محبت

(۲) آخرت سے غفلت

(۳) گناہوں کی کثرت، یہ تین اسباب ہیں جن میں پھنسنے پھنسنے انسان قسی القلب (سخت دل) ہو جاتا ہے۔

### پہلا اسباب: دنیا کی محبت

اب آئیے ان اسباب پر ذرا غور کریں پہلا اسباب دنیا کی محبت ہے، جب انسان دنیا کی عورتوں کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں، دنیا کی اشیاء کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے؛ اس لئے کہ دنیا سخت چیز ہے اور دنیا کی یہ سختی انسان کے دل میں آ جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس چیز سے محبت کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، اس چیز کے اثرات اور آثار دلوں پر اور نفوس پر مرتب ہوتے ہیں؛ لہذا دنیا ہے قسی اور دنیا کی قسالت کا کیا کہنا؟ کبھی یہ دنیا اپنے بنانے والے کے پاس نہیں رہتی، ایک آدمی بڑی محنت کرتا ہے، جماتا ہے، کماتا ہے، بڑا مجاهدہ کرتا ہے،

بلڈنگیں بناتا ہے، سب کچھ تیار ہونے کے بعد اس کے جانے کا نمبر آ جاتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے تو دنیا کہتی ہے میں تو کسی اور کی ہوں تیرے ساتھ آنے کی نہیں۔ دیکھئے! کتنی قساوت ہے دنیا کے اندر، اگر کچھ بھی نرم دلی ہوتی تو کم از کم کمانے والے کے ساتھ تو ضرور چلی جاتی؛ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔

اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جو اسے لینے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ لگنے میں بہت دریگاتی ہے جلدی نہیں ملتی، بڑے مجاہدات کے بعد، بہت ستانے کے بعد، بہت پریشان کرنے کے بعد ایک آدمی کو ملتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا مزاج سختی کا ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے؛ انہیں حضرت مولانا قاسم نانو توی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا جبکہ ان کو بھوپال کے ایک رئیس نے کچھ مال لا کر دیا، حضرت نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے واسطے تم اسے واپس لے جاؤ، تو اس رئیس نے حضرت کی جو تیوں میں وہ مال ڈال دیا، حضرت جو تے پہنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ جو تیوں میں پیسے بھرے ہیں، حضرت نے اپنے انگوٹھے سے اس کو نیچے ڈال دیا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ:

”یہ دنیا بھی عجیب ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یا اس سے بھاگتی ہے اور ہم اس سے بھاگتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے آتی ہے۔“

تو دنیا والے جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ان کو ملتی نہیں، ان سے بھاگتی رہتی ہے۔ یہ دنیا کی سختی کی علامت ہے، جب یہ اپنے مزاج میں سختی رکھتی ہے تو جو آدمی اس سے محبت کرے گا اس کا دل بھی سخت ہو جائیگا؛ اس لئے کہ صحبت کی تاثیر تو معروف چیز ہے۔

## سودخور کے دل کی سختی

دنیا کی سختی دنیا سے محبت کرنے والے کے دل میں آنے کی ایک مشاہداتی دلیل یہ ہے کہ سودخور دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے؛ لیکن دنیا میں اس سے زیادہ قسمی القلب بھی کوئی نہیں، سودخور دنیا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اسی محبت سے، اسی پیار سے پیسے بناتا ہے، پیسے دیتا ہے اور پیسے سے پیسے وصول کرتا ہے؛ اسی کو سود کہتے ہیں، شریعت اس کو حرام کہتی ہے۔

جب اس طرح وہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جب ایک مجبور آدمی، پریشان آدمی، بھوکا پیاسا آدمی، بچے اس کے بھوک اور پیاس سے ترپ رہے ہیں، بلبار ہے ہیں، ایسا کوئی آدمی اس سے آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، میرے اوپر مصیبتیں آگئی ہیں اور میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، میرے بچے کئی دن سے فاقہ میں بنتا ہیں، میری بیوی کا یہ حال ہے، میرے بچوں کا یہ حال ہے، کچھ اللہ کے لئے رحم کرو اور مجھے قرض کی ضرورت ہے؛ اس لئے تم مجھے دو تین ہزار قرض دیدو۔

تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ قرض لیجاو اور تم اس سے پلویا مرو؛ لیکن مجھے بہر حال اتنے ہزار روپے واپس چاہئے اور اس سے زیادہ اتنا ملا کر بھی دینا چاہئے، یہی تو ہوتا ہے سودخور کے یہاں، تین ہزار روپے دیا اور تین ہزار پر کچھ مزید رقم وصول کرتا ہے۔

اب وہ آدمی اس کو لے گیا، لے جانے کے بعد پتہ نہیں کہ کیا حالات پیش آئے؛ لیکن بہر حال اسے تین ہزار روپے دینا ہے اور اس کے ساتھ مزید دینا ہے، وہ بالکل معاف نہیں اور پھر اگر اس نے ایک مہینہ کی مدت پوری کرنے کے بعد اس

کو ادا نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ اس میں مزید اتنے ملا کر دینا ہے اور پھر ایک مہینہ کی تاخیر ہو گئی تو اور اضافہ کر کے دینا ہے۔

اس کو حرام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِّبَّا أَصْعَافًا مُّضَاعَفًا﴾

(اے ایمان والو! تم سود در سود نہ کھایا کرو) [آل عمران: ۱۳۰]

اس سے اندازہ ہوا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہمیشہ قسی القلب ہوتا ہے اور اس کے اندر کا دل بہت سخت، پتھر کے سل کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ محتاجوں اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں سے کوئی ہمدردی و غنواری کا جذبہ نہیں رکھتا، بلکہ ان کی یتیمی، مسکینی و فقیری و محتاجی کا استھصال کرتا اور ان پنا الوسید ہا کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت کا شکار و گرفتار قسی القلب و سخت دل و سخت مزاج ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی سختی کا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔

### دوسرے سبب: آخرت سے غفلت

دل کی سختی آخرت سے غفلت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور دراصل آخرت سے غفلت دنیا سے محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک سبب ہے اور ایک مسبب، جب پہلی بات پائی جائیگی تو دوسری بات خود بخود ہی آجائیگی؛ اس لئے کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ یقیناً آخرت سے غافل ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ دو چیزیں یعنی دنیا اور آخرت ان کے بارے میں حضرت وحیب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

”مَثُلُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كَمَثَلَ رَجُلٍ لَهُ ضَرَّتَانِ إِنْ أَرْضَى إِحْدَاهُمَا

أَسْخَطَ الْأُخْرَى“ (الزهد لابن المبارک: رقم: ۵۹۳)

(دنیا و آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دوسو کنیں یعنی دو بیویاں ہوں

، کہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔)

ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ : ”مَنْ أَحَبَ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ، فَأَثْرُوا مَا يَقْرُبُى عَلَى مَا يَفْنِي“ (جس نے اپنی دنیا سے جی لگالیا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے اپنی آخرت سے جی لگالیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، لہذا تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو)

(مسند احمد: ۲۱۲/۳، مستدرک: ۳۳۳/۳، شعب الایمان: ۷/۲۸۸)

الغرض دنیا و آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا آخرت کا تذکرہ اور آخرت کی یاد انسان کے لئے انتہائی لازمی اور ضروری ہے؛ اسی لئے قرآن میں اور حدیث میں اس کا تفصیلی اور بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ آخرت سے کوئی آدمی غافل نہ ہو، اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔

کیونکہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اگر آخرت کو یاد کرے گا تو اسے کبھی قبریاد آئے، اور کبھی موت یاد آجائے، موت کی سختیاں اس کو یاد آئیں، موت کے حالات اس کو یاد آئیں، آخرت کے حالات اس کو یاد آئیں، قبر میں ہونے والے سوال و جواب کا فصلہ اسے یاد آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات اس کو یاد آئے، ترازوں میں اعمال کے تولے کا مسئلہ اس کو یاد آئے۔

یہ ساری باتیں یاد آئیں گی تو دل کے اندر سختی کہاں باقی رہتی ہے؟ اس لئے جو لوگ ان چیزوں کو بالکل یاد نہیں کرتے، کبھی بھول کر بھی آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے ان کے دل انتہائی سخت ہو جاتے ہیں اور سختی تو ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ

آپ آیات ان کے سامنے پڑھیں اثر نہیں، قرآن ان کے سامنے پڑھیں اثر نہیں،  
حدیث پڑھیں اثر نہیں، بزرگوں کی بتائیں تو کوئی اثر نہیں ہو گا۔

### تیسرا سبب: گناہوں کی کثرت

دل کی سختی گناہوں کی کثرت کا نتیجہ بھی ہوتی ہے، اور گناہوں کی کثرت آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، جب دنیا کی محبت آئی تو اس سے پیدا ہوئی آخرت سے غفلت اور جب آخرت سے غفلت آئی تو اس سے پیدا ہوئی گناہوں کی کثرت، اس لئے کہ جسے آخرت ہی یاد نہیں ہے، وہ گناہوں سے کیوں بچے گا؟ اب گناہ کرتا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، مال بھی گھسٹ رہا ہے، لوگوں کی املاک کو بচھہ میں لارہا ہے اور کسی آدمی پر ظلم کرتے ہوئے قتل بھی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا کے خاک بنارہا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کسی کی غینبیتیں کرتا رہتا ہے، اور اس طرح ہزاروں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے؛ اس لئے کہ اس کے دل کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ نرمی اس کے اندر آتی ہی نہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں اس کے دل کو بتاہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

اور پھر یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک گناہ سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ ایک سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح جب یکے بعد دیگرے گناہ کرتے کرتے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تواب جناب سوچ لیجئے کہ اس کے دل کا کیا حال ہو گا؟ ایک تو دنیا کی محبت، اس نے پیدا کی سختی، دوسراے آخرت سے غفلت، اس نے پیدا کی سختی، تیسراے گناہوں کی کثرت، اس نے پیدا کی سختی۔ یہ تینوں جمع ہو کر اس کے دل کا کیا حال بناتے ہوں گے؟ اس لئے جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو تو اسے ان

تینوں چیزوں سے سب سے پہلے پر ہیز کرنا چاہئے۔ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہئے، آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہئے، گناہوں کو جھوڑنا چاہئے، اس لئے کہ اگر یہ چیزیں جاری رہیں تو دل میں سختی بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔

اس لئے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہئے، جب ان تینوں سے سچ جائیگا تو دل کو زم کرنے کے لئے ایک آیت بھی اس کے سامنے پڑھنا کافی ہو جائیگا۔

### گناہ دل کو زنگ آلو دبنادیتے ہیں

جس دل پر ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، وہ کالا اور زنگ آلو د ہو جاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے سچ کپکے دل کے ساتھ تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور گناہ پر گناہ کرتا رہا تو اس کے وہ داغ، دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے اسی کا ذکر کر اس آیت میں کیا ہے: ﴿كَلَّابُلُ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ (ہر گز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے) (ترمذی: ۳۳۹۰)

دیکھئے، اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے صاف بتایا ہے کہ دل پر گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ وہ زنگ کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ اگر فوراً توبہ کر لیا تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے ورنہ وہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو کالا وزنگ آلو د کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔

## دلوں پر دو قسم کے حملے

دل اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور بے بہانگت ہے اور بہت ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے، اور جو چیز کمال والی ہوتی ہے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور وہ دشمن اس پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے دل کے اوپر بھی اس کے دشمنوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے اور انسانی قلب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے، اس لئے قلب پر ہونے والے حملوں کو جاننا و سمجھنا لازمی و ضروری ہے۔ تاکہ ہم دل کو محفوظ رکھ سکیں۔

جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

” ان هذَا الْقَلْبَ كَرِبُّشَةٌ بِفَلَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهُرًا  
لِبَطْنِ“

( بلاشبہ یہ دل ایک پر کی طرح ہے جو ایک کھلے میدان میں پڑا ہوا اور جس کو ہوا اللہ سیدھا گھما تی پھر اتی رہتی ہو)

(مسند احمد: ۷۵۷۱، شعب الانیمان: ۱/۳۷۳)

اب سنئے کہ علماء لکھتے ہیں کہ دل پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے حملے ہیں:

(۱) ایک شہوات کا حملہ ہوتا ہے (۲) اور دوسرے شبہات کا حملہ ہوتا ہے۔

## دل پر شبہات کا حملہ

شبہات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے ایسے خیالات اور وسوسے جس کی وجہ سے دل میں اسلام اور ایمان، دینی حقائق اور اسلامی عقائد کے بارے میں انسان متشکل ہو جائے اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے۔

یہ شبہات کا حملہ بہت سخت ترین حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ اس کے دل کی کائنات بگڑ جاتی ہے، دل کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے؛ یہاں تک کہ اس کا ایمان ضائع ہو کروہ کافر بن جاتا ہے۔

جہاں تک مسئلہ ہے شبہات کا اس وقت میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا؛ اس لئے کہ الحمد للہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی حضرات دین کے بارے میں کسی بھی شک و شبہ میں بنتا نہیں ہیں، دین کے اوپر ان کو استحکام ہے، دین کی باتوں پر ان کو یقین ہے۔ موقعہ ہو گا اور ضرورت ہو گی تو کسی وقت اس پر بھی تفصیل کلام کروں گا۔

### دل پر شہوات کا حملہ

اب لیجئے دل پر ہونے والے دوسرے حملے کو، اور وہ شہوات کا حملہ ہے، شہوات کے معنی ہیں خواہشات ولذات، یہ شہوات اور خواہشات کا حملہ جب انسان کے دل پر ہوتا ہے تو دل پر اس حملہ کی وجہ سے اس کے بہت سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، صرف ایک جگہ اس کا اثر نہیں ہوتا؛ بلکہ بہت سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے آنکھ پر اس کا اثر، زبان پر اس کا اثر، کانوں پر اس کا اثر، ہاتھ پر اس کا اثر، پیٹ پر اس کا اثر، فرج اور شرمگاہ پر اس کا اثر۔

غرض یہ کہ اوپر سے نیچے تک انسانی جسم کے سارے اعضاء پر شہوتوں کے اس حملہ کی وجہ سے تاثر پیدا ہوتا ہے، یہ عام طور پر تو ہم جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ شہوتیں اس قدر آگے بڑھتی ہیں اور انسان ان میں اس قدر منہک ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ کفر میں بھی پھنسا دیتی ہیں۔ مال کی خواہش، عورت کی خواہش، سامان کی خواہش، ان خواہشوں سے کبھی انسان اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔

غور کریں کہ شہوات کا حملہ کس قدر سخت ہوتا ہے اور اس کے سلسلہ میں کس قسم کی شہوتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں؟ آج کل جو ماحول ہے، اس ماحول کے لحاظ سے شہوات کے حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک طویل زمانہ ایسا گذر گیا کہ اس کے اندر آ جکل کی طرح شہوات کا حملہ کرنے والے اس قدر زیادہ اسباب نہیں تھے، تھے تو بہت کم تھے؛ لیکن اس زمانہ کے اندر شہوات پر حملہ کرنے کے جو اسباب ہیں، وہ اس قدر کثیر ہو گئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جائیں گے وہاں وہاں تک آپ کو ایسے اسباب ملیں گے۔

کوئی راستہ اس سے خالی نہیں، کوئی چیز اس سے خالی نہیں، آپ صابن خریدیں، کوئی دوا خریدیں، کوئی مٹھائی خریدیں، کوئی استعمال کی چیز خریدیں، ہر ایک پر عورت کی ننگی تصویر آپ کو ملے گی؛ لیکن آدمی بے خبری کے ساتھ ان چیزوں کو لیتا ہے، ان چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور خرابی بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک بڑھ گئی؛ اس لئے میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ کا بہت بڑا مسئلہ، سخت ترین مسئلہ یہ ہے کہ دل پر ہونے والے اس حملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، جس کا نام ہے شہوات کا حملہ ہے، جو جوانوں پر بھی ہوتا ہے، بوڑھوں پر بھی اور آج کل اتنینیت کی وجہ سے اور اسی طرح مختلف اس قسم کے اسباب کی وجہ سے بچوں پر بھی یہ حملہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بات سے اس کی شدت اور اس کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے

### زبان کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

جیسا کہ میں نے عرض کیا شہوات کا حملہ ایک موقعہ اور ایک عضو پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حملہ بہت سے اعضاء پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک زبان بھی ہے، جس پر

شہوات کا حملہ ہوتا ہے۔

زبان کی شہوت یہ ہے کہ بولنے کا چسکا لگ جائے، آدمی کو بولنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اچھا بولو، برا بولو، غیبت کرو، جھوٹ بولا کرو، کسی پر الزام تراشی کیا کرو۔ غرض یہ کہ معلوم نہیں کیا کیا اس کی زبان سے نکل رہا ہے؛ مگر شوق ہے بولنے کا اور بولنے کی وجہ سے زبان کو کنڑوں نہیں ہے، بولتا چلا جا رہا ہے:-

اسی لئے بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ: ”من کثر کلامہ کثر سقطہ“

(جو زیادہ بولتا ہے، اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں)

لہذا جو کم بولتا ہے وہ کم غلط بولتا ہے، اور جو بالکل نہیں بولتا وہ غلط ہی نہیں بولتا۔  
بولنے کی بیماری سخت ترین بیماری ہے اور اس پر انسان کو بہت کنڑوں کرنے کی ضرورت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ ما النجاة؟“ نجات کیسے حاصل ہو گی؟ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ: ”أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيُسْعَكَ بَيْتُكَ وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ“ (اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو)

(ترمذی: ۷۱۵، مسند احمد: ۲۲۸۹، شعب الایمان: ۳/۲۲۹)

اس حدیث میں سوال کیا گیا ہے ایک صحابی کی طرف سے کہ نجات کیا ہے؟  
یعنی نجات کیسے حاصل ہو گی؟

اس کے جواب میں نبی ﷺ نے تین باتیں فرمائیں: ایک یہ کہ اپنی زبان پر کنڑوں رکھو، زبان پر کنڑوں رکھنا نجات کے لئے انتہائی ضروری ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل سے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس پر قابو رکھو، ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ! کیا زبان اتنی خطرناک چیز ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارا موآخذہ ہوگا؟

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ: ”هَلْ يُكْبُثُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أُوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ الْسَّنَّتِهِمْ“ (لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم رسید کرنے والی چیز سوائے زبان سے نکلنے والی چیزوں کے اور کیا ہے؟) (ترمذی: ۲۶۱۲، سنن کبیری للنسائی: ۱۲۱/۲، مستدرک: ۲۷۸/۳)

یعنی مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی شہوت کی وجہ سے جائیں گے۔

اور دوسرے یہ کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ اختلاط نہ ہو، خواہ مخواہ لوگوں سے میل جوں نہ ہو، خواہ مخواہ ملاقاتیں نہ کی جائیں؛ اس لئے کہ جب ملاقاتیں کریں گے تو زبان کنٹرول میں کہاں رہے گی؟ ملنے کے بعد بولنا ضروری ہے، ملنے کے بعد آپ نہیں بولیں تو لوگ آپ کو حق سمجھیں گے، اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ رہو۔

تیسرے یہ فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، یہ بھی نجات کا سامان ہے، کیونکہ رونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح نجات مل جاتی ہے۔

الغرض زبان کی خواہش یہ ہے کہ انسان بولنے کا خواہش مند ہو، اور اس میں اپنے وبرے کی کوئی تمیز نہ کرے۔ جھوٹ بولے، چغلی کھائے، گالی بکے، کسی کا دل توڑے، یا غیبت کرے۔

## حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کی ایک خاص بات

حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے مضامین لکھے، ان میں سے ایک ان کے خصوصی خادم تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا، اس کے اندر انہوں نے حضرت کے بہت سے فضائل خصائیں و مناقب درج کئے، جس میں ایک بات خصوصی طور سے یہ لکھی تھی کہ میں حضرت کی خدمت میں برسہابر س دن رات گزار چکا ہوں؛ لیکن کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا کمال ہے؟ یہ کوئی معمولی کمال نہیں ہے کہ کسی کی غیبت زبان سے نہ ہو اور برسہابر س گذر جائیں، آدمی ہر جگہ یکساں طور پر رہے کہ کبھی غیبت ان سے سرزد نہ ہو، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟

میں نے زبان کی شہوت میں سے ایک بات ذکر کی، وہ یہ کہ انسان میں بولنے کی خواہش اور بولنے کی طلب اور جستجو پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ بس اچھا ہو یا برا ہو بولتا رہے، اب لجئے ایک اور بات عرض ہے، وہ یہ کہ زبان کی شہوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ مزے دار چیزیں کھانے پینے کیلئے وہ لپکے، نہ اچھائی کا لحاظ رکھے نہ برائی کا، وہ مزا حلال کے ذریعے آئے تو ٹھیک، حرام کے ذریعے آئے تو بھی ٹھیک۔ انسان صرف کھانے پینے اور مزے کی فکر کرتا ہے اور اسے اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کھا رہا ہے کہ برا کھا رہا ہے۔ یہ بھی انسان کے لئے انتہائی خطرناک ہے، شیطان دل پر حملہ کر کے اس کو آمادہ کر لیتا کہ وہ زبان کی شہوت کے ذریعہ گناہ میں بنتلا ہو، ورنہ اگر دل آمادہ نہ ہو تو زبان کے گناہ سے انسان نجات جاتا ہے۔

### آنکھوں کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

شہوات کے ذریعہ حملہ جو ہوتا ہے، اس میں ایک حملہ آنکھوں کے واسطے سے

ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں نے کہا کہ: ”العینُ رائدُ الشهوة“  
(آنکھ شہوت کی قاصد ہے)

حضرت علیؐ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ: ”العيون مصائد الشيطان“  
(آنکھیں شیطان کی شکار گا ہیں ہیں)

(ادب الدنيا والدين للماوردي: ۱/۸۰)

اس لئے آنکھوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے؛ تاکہ اس کے ذریعہ  
ہمارے دل پر شیطان کا جملہ نہ ہو سکے۔

یاد رکھیں کہ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو خطرناک  
حد تک انسان کے دل کو بر بادو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔

اسی لئے نظر کو شیطان کا قاصد کہا گیا ہے؛ کیونکہ اس کے ذریعہ شیطان انسان کو زنا و  
بد کاری میں مبتلا کر دیتا ہے؛ اسی لئے قرآن میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے  
نظر بچانے اور اس کو نیچے رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
ذَلِكَ ازْكَرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [السور: ۳۰]

(آپ موسیٰ مددوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی  
شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لئے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، بلہ  
شبہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں)

اس کے بعد والی آیت میں بعینہ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، اور ان  
آیات میں ایک تو نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم ہے اور دوسرے اس میں شرمگاہوں کی  
حفاظت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اس لئے بیان کیا

گیا ہے کہ پہلا حکم ذریعہ ہے دوسرے کا، لہذا آنکھوں کو نیچار کھنا شرمنگاہ کی حفاظت کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيسِ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابُهُ عَزًّا وَجَلًّا إِيمَانًا يَجْدُ حَلَاوَةَ فِي قُلُوبِهِ“  
 (نظر ابلیس کے زہاراً و دیروں میں سے ایک تیر ہے، پس جو شخص اللہ سے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے اللہ عزوجل اس کو ایمان سے اس کا بدلہ عطا کرتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔)

(مستدرک حاکم: ۳۲۹/۲، معجم کبیر طبرانی: ۱۸/۹)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مردی ہے کہ: ایا کم والنظرة بعد النظرة

فانها تزرع في القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة“  
 (تم پہلی نظر کے بعد دوسرا نظر سے بچو؛ کیونکہ وہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے، اور یہ بات آدمی کو فتنہ میں بٹلائے کرنے کے لئے کافی ہے)

(ادب الدنيا والدين: ۱/۳۰۸، احیاء العلوم: ۱۰۲/۳)

علامہ ابو طاہر بغدادی نے اپنی مجلس وعظ میں سنایا کہ:

عَاتَبَتْ قَلْبِيْ لَمَّا	رَأَيْتُ جَسْمِيْ نَحِيْلًا
فَأَلَّمَ الْقَلْبُ طَرْفِيْ	وَقَالَ : كُنْتَ الرَّسُولًا
بَلْ أَنْتَ كُنْتَ الْوَكِيلًا	فَقَالَ طَرْفِيْ لِقَلْبِيْ
فَقُلْتُ : كُفَّا جَمِيْعًا	تَرَكْتُ مُونِيْ قَتِيلًا

(میں نے اپنے دل کو ملامت کی جب میں نے اپنے بدن کو کمزور پایا، تو دل نے

آنکھ پر الزام لگایا اور کہا کہ تو ہی پیا مرتھا، پھر میری آنکھ نے دل سے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہی ذمہ دار تھا، تو میں نے کہا کہ تم دونوں بس کرو، تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا) الغرض نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے؛ اس لئے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر شیطان کا بڑا حرہ اور انسان کو برائی میں بنتا کرنے کا اس کا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ قلب کی دنیا برباد نہ ہو جائے۔

### کان کی شہوت کے ذریعہ دل پر حملہ

اسی طرح شہوت کا حملہ کانوں سے بھی ہوتا ہے، یعنی کان کے ذریعہ بھی شیطان دل پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کانوں سے ناجائز و غلط باتیں سننے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ کانوں سے گانے سنتا ہے، غبیتیں سنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے۔ یہ کانوں کی خواہش ہے اور اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل برا اور انہیں غلط ہو جاتا ہے۔

گانے سننے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْغَنَا يُنْبُتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ“

(گانادل میں نفاق پیدا کرتا ہے)

(ابو داؤد: ۳۹۲۷، سنن بیہقی: ۱۰ / ۲۲۳)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ”الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الإيمان في القلب“

کما ینبت الماء الزرع ” (گانadel میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی اگاتا ہے اور ذکر del میں ایمان کو بڑھاتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے)

(سنن بیهقی: ۱۰ / ۲۲۳)

علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ گانا سننا بعض لوگوں میں نفاق اور بعض میں عناد، بعض میں جھوٹ، بعض میں فشق و فجور، بعض میں رعونت و تکبر پیدا کرتا ہے اور اس سے زیادہ تر صورتوں کا عشق اور بے حیائی کی باتوں کی پسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔

(اغاثۃ اللہفان : ۱ / ۲۳۸)

یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے صرف اتنی بات نہیں فرمادی کہ کان سے گانے سننے پر کان خراب ہو جاتا ہے؛ بلکہ یوں فرمایا کہ دل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے؛ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، ان سارے اعضاء کے گناہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے؛ اس لئے کوئی ایسی بات نہ سنبھالی جائے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جیسے غیبتوں کا سنسنا، بہت سارے لوگوں کو غیبتیں سننے میں مزہ آتا ہے، لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غیبت سنا نہیں کرتے، بعض لوگ ایسے تو ہیں کہ وہ غیبت کرتے تو نہیں؛ لیکن غیبت سن لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کام غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی دونوں گناہ اور غلط ہیں۔

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی صاحب کے یہاں کوئی آتا اور کسی کی غیبت کرتا یا کسی کی کوئی برائی بیان کرتا، تو حضرت اس کی پوری بات سنتے اور سننے کے بعد یہ فرماتے کہ بھائی! آپ نے یہ جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب بس جھوٹ ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کی اصلاح کا۔

اور ایک موقع پر کسی نے حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت فلاں صاحب تہجد گزار ہیں؛ لیکن وہ جو تہجد پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں وہ اصل میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! وہ تو دکھانے کے لئے کرتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو وہ بھی نصیب نہیں۔  
یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ اور ڈھنگ ہے تاکہ کوئی کسی کی غیبت کرنے کی ہمت نہ کرے۔

شہوت کا ایک جملہ بطن یعنی پیٹ کی جانب سے بھی ہوتا ہے؛ کیونکہ پیٹ بھی خواہشات کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے اور اسلام کی تعلیمات سب کی سب اس بات کی موید ہیں کہ انسان کو مم سے کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہئے، اصول یہ ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ انسان چل پھر سکے، اپنے کام کا ج کر سکے اور اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، یعنی یہ کہ یہ نہیں کہ حلق تک کھایا جائے۔ اور ایسا بھی نہ کرے کہ خواہ مخواہ کھانے کی عادت بنالی جائے اور اس کے لئے اچھے اچھے کھانے کی فکر ہمیشہ کی جائے، یہ فکرا چھی بات نہیں ہے، یہ شہوت بطن ہے، اور شہوت بطن انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔

اور آج یہ شہوت بطن ہی تو ہے جسکی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے شہوت بطن بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔

یہ پیٹ کی خواہش بھی انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان کا دل اس کی وجہ سے خبائش و رذائل کا اڈہ بن جاتا ہے۔

## ایک لطیفہ

اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا، وہ یہ کہ ایک واعظ تھے، پرانے زمانے میں، ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی وعظ کرتے تو ہر وعظ کے آخر میں ایک جملہ ضرور کہتے اور اسی پرانے کا وعظ ختم ہوتا، وہ کہتے تھے: ”سارا فساد مر چوں کا ہے“، ان کا بیان بھی ہوتا سود کی برائی پر، بھی ہوتا رشتہ خوری کی لعنت پر، بھی ہوتا بنے نمازیوں پر، بھی ہوتا شراب وزنا پر، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو، غرض یہ کہ وعظ کسی بھی عنوان سے ہو وہ آخر میں ضرور یہ کہتے تھے کہ سارا فساد مر چوں کا ہے۔

لوگ سن تو لیتے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ مر چوں کا کیا فساد ہے؟ اور یہ واعظ صاحب ہر وعظ کے آخر میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ سارا فساد مر چوں کا ہے۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا ہی لیا کہ حضرت آپ کا سارا وعظ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ آخری جملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا ہے؟

اس پر انہوں نے بڑے مزے کا اور واقعی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنے گناہ لوگ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق کھانے پینے سے ہے کہ انسان خوب عمدہ غذا میں کھاتا ہے اور انسان خوب اس وقت کھاتا ہے جب غذا مزیدار ہوتی ہے، اور غذا مزیدار اس وقت ہوتی ہے جب اس میں مصالحہ جات خوب پڑتے ہیں، اور ان مصالحہ جات میں سے سب سے اول نمبر پر مرچ ہوتی، لہذا مرچ سے کھانا مزیدار ہوتا ہے اور مزیدار ہوتا ہے تو لوگ خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں تو اس سے قوت و طاقت بنتی ہے اور جب قوت و طاقت بنتی ہے تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے انسان گناہوں میں بنتا ہوتا ہے، اس لئے میں ہر بیان و وعظ

کے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ سارے افساد مر چوں کا ہے۔

ان واعظ نے واقعی بڑی حکیمانہ بات فرمائی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہوت  
بطن کس قدر خطرناک ہے؟ اور وہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہے؟

### شہوت فرج سے دل پر حملہ

آخری شہوت ہے، شہوت فرج، یعنی شرمگاہ کی خواہش، اس کو کون نہیں جانتا  
کہ کتنی خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی انسان کے دل پر حملہ  
کرنے والی شہوت ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان اللہ رسول اللہ حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ  
کی نظر میں گر جاتا ہے اور صرف اللہ رسول ہی کی نظر میں نہیں دنیا والوں کی نظر میں  
بھی گر جاتا ہے۔

چنانچہ جس آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ تو شہوت کا پیjarی ہے،  
تو اس آدمی کی کیا حیثیت وقعت بنتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔

اسی لئے ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ رسول اللہ حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے  
فرمایا کہ:

”مَنْ وُقِيَ شَرَ لَقْلِقَهُ وَقَبْقَبَهُ وَذَبَّذَبَهُ فَقَدْ وُقِيَ الشَّرُّ كُلُّهُ، قَالَ:

“أَمَا لَقْلُقَهُ فَاللَّسَانُ وَقَبْقَبَهُ فَالْفَمُ وَذَبَّذَبَهُ فَالْفَرْجُ”

(جو شخص لقلقه اور قبقبہ اور ذبذبہ کے شر سے نج گیا وہ تمام شرور سے نج گیا) پھر فرمایا  
کہ: لقلقه زبان ہے، قبقبہ منہ ہے اور ذبذبہ شرمگاہ ہے۔

(شعب الانیمان: ۷ / ۱۹)

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا  
کہ: ”مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ“

(جو شخص مجھے مہانت دے اس کے دو جڑوں کے نیچ کی چیز اور اس کے دو پیروں کے نیچ کی چیز کی، میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں)

(بخاری: ۶۲۷۳، مسنند ابو یعلی: ۵۵۵، سنن بیهقی: ۱۶۶۸)

الغرض یہ شہوت فرج بھی انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی اور اس کو ہزاروں بیماریوں میں بنتا کر دیتی ہے، اس لئے اس سے بھی بہت بچنا چاہئے۔

### تکبر کے ذریعہ دل پر حملہ

شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو دل کو تباہ کرنے کے لئے شیطان استعمال کرتا ہے، اس کا نام ہے تکبر۔ یعنی اپنے آپ کو کسی دینی یا دینی کمال میں بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور تکبر عربی لفظ ہے، اور باب تفعیل سے ہے، اور اس باب کی ایک خاصیت تکلف ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی حقیقت میں تو بڑا نہیں ہوتا، مگر اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، اور بڑا سمجھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی کا دل ناپاک ہو جاتا ہے، شیطان شیطان اسی لیے بناتا کہ اس کے اندر تکبر تھا، ورنہ تو وہ بڑا عابد تھا، بڑا امداد تھا، عالم تھا، لیکن تکبر نے اسکو خاک کر دیا، یہاں تک کہ اس کو آسمانوں سے اُتار کر دنیا میں بھیج دیا بلکہ پھینک دیا گیا۔

تکبر سب سے بڑی بیماری کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تکبر کی حقیقت دو چیزیں ہیں: ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور دوسرا دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ان دو چیزیں سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اگر ان دونیں سے صرف ایک چیز آپ کو بڑا سمجھنے کی بات پائی جائے تو اس کا نام عجب ہے، وہ بھی ایک برا اخلاق اور بڑی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ہے، اگر صرف دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تو یہ دوسرے آدمی کی توہین و تذلیل ہے، یہ بھی

اسلام میں ناجائز ہے۔

اور اگر دونوں باتیں ہوں کہ خود کو سب سے اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا نام تکبر ہے، معلوم ہوا تکبر کے دو جز ہیں، دونوں جمع ہوں تو بھی خراب، اور اگر الگ الگ پائے جائیں تو بھی خراب، ظاہر ہے کہ جب ان دونوں میں سے ہر بیماری خطرہ ہے تو دونوں کسی میں جمع ہو جائیں تو کیا اس کا خطرہ اور بڑھنیں جائے گا؟ اسی لئے اس کو سب سے زیادہ خطرناک بیماری کہا گیا ہے، اور ام الامراض نام دیا گیا ہے۔

### بڑائی اللہ ہی کو سزاوار ہے

بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ وہ بڑائی جتا ہے اور تکبر کرے، کسی بندے کو کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

”الْكَبَرِيَاءُ رَدَائِيُّ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيُّ، فَمَنْ نَازَ عَنِيْ وَاحِدَا  
مِنْهُمَا قُذْفَتِهِ فِي النَّارِ“ (کبیریٰ میری چادر ہے، اور عظمت میری ازار ہے، پس جو شخص ان میں سے کسی میں بھی میرے سے جھگڑے گا تو میں اس کو دوزخ کا عذاب چکھاؤں گا۔)

(ابوداؤد: ۹۰۰، واللفظ له، ابن ماجہ: ۳۱۷، مسنند احمد: ۳۱۳، صحيح ابن حبان: ۳۵۲)

مطلوب یہ ہے کہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس لئے کہ ساری کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات بے قدر و بے حقیقت ہے اور اللہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، اسلام تکبر اس کی

صفت ہے اور جو اس کی صفت میں شریک ہونا چاہے، گویا وہ اللہ کی صفت میں اپنے کوشش کر کے شرک کرنا چاہتا ہے، اس لئے اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں، اس لئے کاس کے برابر کوئی نہیں نہ ذات میں نہ ہی صفات میں۔

### ریا کاری کے ذریعہ دل پر حملہ

ریا کاری بھی شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے، یعنی اللہ کی اطاعت دوسروں کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے کرنا، مثلاً آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن ان ساری عبادتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے دیکھا کریں اور مجھے واہ واہ کہیں، لوگ میرے سے خوش ہو جائیں، میری تعریف کریں، یہ نیت دل میں رکھ کر عبادت کرنے کا نام ریا کاری ہے۔

اللہ کی نظر میں اس عبادت کا کوئی اعتباً نہیں جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، بلکہ حدیث میں اسے شرک خفی کہا گیا ہے، ایک تو شرک جلی ہے، بتوں کی پوجا کرنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، ذات میں یا صفات میں یا اس کے افعال میں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور ریا کاری شرک خفی ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے شرک خفی قرار دیا ہے؛ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو خدا کی عبادت ہے، لیکن دل میں غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اس لیے یہ شرک خفی ہے۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام بندوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندادیگا کہ جس نے اللہ کی عبادت میں دوسرے کوشش کیا تھا وہ انہیں کے پاس جائے جن کو دکھانے کے لیے نیک کام اور عبادت کرتا تھا۔

(ترمذی: ۳۱۵۴، ابن ماجہ: ۴۰۳، مسنند احمد: ۴۶۶۳، صحیح ابن

حبان: ۱۳۰۷، معجم کبیر: ۳۰۷/۲۲)

مطلوب یہ ہے کہ ریا کاروں سے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری عبادت و نیکی کا ثواب بھی ان لوگوں سے لے لو اور طاعت کا صلہ بھی انہیں سے لے لو اور دیکھو کیا دیتے ہیں؟

نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب لیں گے تو عابد، عالم اور تھنی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائیگا، اور تینوں اپنے اعمال کا اظہار کریں گے، ارشاد ہو گا کہ یہ سب اعمال تم نے اس لئے کئے ہیں تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ فلاں شخص مجاهد ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں آدمی بڑا تھنی ہے اور یہ باتیں تم کو دنیا میں حاصل ہو گئیں، جس مقصد کے لیے نیک اعمال کیے تھے، وہ حاصل ہو چکا۔ لہذا باب یہاں کیا چاہتے ہو، جاوہ جہنم میں، اور ان کو فرشتے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔

(مسلم: ۱۹۰۵، نسائی: ۷۱۳، ۳۱، مستدرک: ۱ / ۱۸۹)

معلوم ہوا کہ ریا کاری سے کیا ہوا کام اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہئے، اور دل کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔

### اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو جانا بھی بحرت ہے

بھائیو! یہ شہوت کا حملہ ان تمام طریقوں سے انسان کے اوپر ہوتا ہے اور جب ان تمام طریقوں سے ہوتا ہے تو ہم کو اندازہ کرنا چاہئے کہ ہمیں اپنے دل کو س طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس طرح کے تمام حملوں سے ہم اپنے دل کو محفوظ رکھیں، جب ان تمام چیزوں سے آدمی دور ہو جائیگا تو یہ دور ہو جانا بھی بحرت

کے قائم مقام ہے۔

چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىَ اللَّهُ عَنْهُ“ (مہاجرہ مانہی اللہ عنہ) (صحیح البخاری، رقم: ۱۰)

بھائیو! ایک ہجرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا، جیسے حضرات صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں جا کر رہنا اختیار کیا، اللہ کے نبی ﷺ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔

اور ایک ہجرت یہ ہے کہ جتنے گناہ و بے حیائی کی باتیں ہیں اور جتنی شہوات ہیں، ان تمام باتوں سے محض اللہ کے لئے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا۔ یہ بھی ہجرت کے اندر داخل ہے، اب ہم کو بھی ہجرت کرنا چاہئے، جو آدمی یہ ہجرت کرے گا وہ مہاجر کہلانے گا؛ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کیلئے کرے دنیا کے لئے نہیں، اللہ کی رضا کے لئے دنیا کو چھوڑ دے۔

## دلوں میں نرمی کیسے پیدا ہو؟

اس کے بعد ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شہوات و لذات، گناہوں اور دنیوی محبتوں کی وجہ سے دلوں میں جوختی پیدا ہوتی ہے اسکو دور کرنے اور قلوب کو زم کرنے کے نئے بھی موجود ہیں، جن کو استعمال کرنے سے دل کو زم کرنے میں بہت مدد گتی ہے۔

یہاں پانچ نسخے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں؛ تاکہ ہم ان کے ذریعہ اپنے  
دولوں کو نرم کریں اور قلوب کو منور کریں۔

ان میں سے قرآن پاک کی تلاوت ایک نسخہ ہے، ذکر اللہ ایک نسخہ ہے، موت  
کی یاد اور قبروں کی زیارت ایک نسخہ ہے، اہل بکاء کی صحبت ایک نسخہ ہے۔

### اہل فقہ کے لئے رقاائق کی ضرورت

ان نسخوں کا استعمال کرنا جس طرح عام لوگوں کے لئے ضروری ہے، اسی طرح  
فقہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے بھی بہت ضروری ہے؛ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا  
ہے کہ فقہ پڑھتے پڑھتے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ بات آپ کو بڑی تجویز خیز  
لگے گی؛ لیکن ہے حقیقت۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں؛ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ  
نے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ کے اندر بالکل ابتداء ہی میں لکھی ہے؛ وہ لکھتے ہیں  
کہ：“الْتَّجَرُدُ لِهِ عَلَى الدَّوَامِ يُقْسِي الْقَلْبَ وَ يَنْزِعُ الْحَشِيشَةَ مِنْهُ كَمَا  
نُشَاهِدُ الآنَ مِنَ الْمُتَجَرِّدِينَ لِهِ”۔ (احیاء العلوم: ۲۲۱)

(فقہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاص ہو کر رہ جانا دل کو سخت کر دیتا ہے اور  
اس سے اللہ کا خوف و خشیت نکال دیتا ہے جیسا کہ اب ہم ان لوگوں میں اس کا  
مشابہہ کرتے ہیں جو اس کے لئے خاص ہو کر رہ جاتے ہیں)

وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہ پڑھتے ہوئے روقدح بہت ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے،  
ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے اور تحقیق کے لئے بڑے بڑے لوگوں پر تبصرے کئے  
جاتے ہیں اور یہ کرتے کرتے دلوں کے اندر سختی آ جاتی ہے؛ اس لئے بہت ضرورت  
ہوتی ہے ان لوگوں کو جو فقہ کا درس لیتے ہیں کہ وہ بار بار ”کتاب الرقاائق“ کا بھی  
مطالعہ کیا کریں۔ ”الرقائق“ وہ ابواب ہیں جن کے اندر دل کو نرم کرنے کے متعلق

احادیث اور آثار اور اقوال بیان کئے جاتے ہیں، جب آدمی فقہ کے ساتھ اس کو بھی پڑھتا رہے گا تو انشاء اللہ دل نرم بھی ہوتا جائیگا۔

### دل کی نرمی کا پہلا نسخہ

بہر حال دل کو نرم کرنے اور اس کی سختی کو دور کرنے کی سمجھی کو ضرورت ہے، اور اس کے لئے پہلا نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور بالخصوص جمکہ وہ سمجھ کر ہو تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں بیان کئے گئے وعدوں اور وعدوں کو سمجھ کر پڑھے، ان پر غور کرے، اللہ کے احکام کو پیار سے پڑھے، ان میں غور کرے۔ اس میں بیان کی گئی اللہ کی صفات و کمالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح قرآن کی تلاوت ایک عجیب اثر پیدا کرتی ہے اور اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں:

﴿أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيٍ تَقْشِيرٌ  
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ  
اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
هَادٍ﴾ [آل زمر: ۲۲]

(اللہ تعالیٰ نے بہترین بات (قرآن) نازل کی جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بار بار دہراتی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے بدن کا نپاٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا)

اس آیت میں قرآن کی تلاوت کا اثر بتایا گیا ہے کہ اس سے دل و بدن نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔

**آپ حَلَّيْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ایک آیت میں پوری رات گزار دی**

تلاوت کا یہی اثر تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی حَلَّيْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اس کا عجیب کیف اور عجیب حال طاری ہو جاتا تھا، بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری رات ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے، رات میں شروع کرتے اور صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہتے اور اس پر غور و خوض کرتے اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی حَلَّيْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روتے بھی رہتے۔

حضرت ابوذر غفاری رض فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی حَلَّيْ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نماز کے اندر کھڑے ہوئے اور آیت تلاوت کرنے لگے:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (اے اللہ! اگر آپ بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ ہی طاقت و راہ حکمت والے ہیں) [المائدۃ]

یہ آیت دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے، کہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، کون روکنے والا ہے؟ اور اگر آپ مغفرت کرنا چاہیں، بخش دینا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو پورا پورا اختیار ہے، اس لئے کہ آپ تو بڑے زبردست طاقت والے، قدرت والے ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟۔

یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی ﷺ کے ہاتھ اتنے نرم اور روٹے جارہے تھے، حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ پوری رات اسی آیت کی تلاوت پر اللہ کے نبی نے بسر کر دی۔

(سنن کبریٰ النسائی: ۳۵۳، سنن ابن ماجہ: مستدرک حاکم: ۱/۳۲، سنن یہقی: ۱۳/۳)

اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک کیسا اللہ کا کلام ہے، دل کو کیسا گداز کرتا ہے، نرم کرتا ہے اور اس کے اندر کیسی نرمی اور لطافت پیدا کر دیتا ہے۔  
ایک تو اللہ کے نبی کا قلب اطہرو یسے ہی نرم اور گداز تھا، جن کا جسم بھی نرم اور گداز ہو، ان کے دل کا کیا حال ہوگا؟

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کے ہاتھ اتنے نرم اور گداز تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم مصافحہ کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روئی کے گلوں میں ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔

(صحیح بخاری: رقم ۱۹۷۳، مسلم: ۲۱۹۹)

ایسے ہی اللہ کے نبی ﷺ کا پورا جسم نرم تھا، جن کے جسم میں یہ نرمی ہوتا اس کے دل کی نرمی کا حال کیا ہوگا؟

اس لئے کہ عام طور پر ایسا ہے کہ دل سخت ہوتے ہیں اور جب جسم نرم ہوتے ہوئے بھی دلوں میں سختی ہوتی ہے تو جس کا جسم بھی نرم ہے تو اس کے دل کے عالم کو سوچنا چاہئے۔

تو بہر حال اللہ کے نبی ﷺ سے ایسی بہت سی روایتیں مردوی ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، روٹے چلے جارہے ہیں، دل کی نرمی کا عجیب و غریب حال لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے۔

## قرآن نے آپ حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ کو رلایا:

ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ: ابن مسعود! تم قرآن پڑھ کر مجھ کو سناؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ جس پر خود قرآن نازل ہوا اس کو میں پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ میراجی چاہتا ہے کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی سورت ”سورۃ النساء“ پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، بہت دیر پڑھنے کے بعد میں نے نبی اکرم حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ کے چہرہ انور کو دیکھا کہ کیا حکم ہے، مزید پڑھنے کا یارک جانے کا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ کو دیکھا تو آپ زار و قطار رور ہے تھے۔

(صحیح البخاری: ۳۵۸۲، ترمذی: ۲۵۰۳، سنن کبریٰ

نسائی: ۱۳۸/۸)

اب بتائیے کہ اللہ کے کلام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ دلوں میں ایسا اثر کرتا تھا کہ جب پڑھنے والا پڑھتا تھا تو پڑھنے والے پر بھی اور جو سنتے تھے، ان پر بھی دونوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے کافر لوگ جن کے دلوں کی تختی خدا کی قسم! پھر وہی سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی حَلَّیْ لِلَّهِ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ جب قرآن ان کے سامنے پڑھتے تھے تو ان کے دل بھی ایسے نرم ہو جاتے تھے جیسے کہ موسم ہو۔

حدیث کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ یہ جب اللہ کے رسول حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر  
قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں :

﴿ يَا يَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ  
حَمْلٌ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرًا وَمَا هُمْ بِسُكُرٍ وَلِكُنَّ عَذَابَ  
اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج : ۲ - ۱]

( کہ اے لوگو! اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو؛ کیونکہ قیامت کا زلزلہ  
بڑا خطرناک وحشت ناک ہوگا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی  
ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیگی اور کوئی عورت اگر حاملہ ہوگی تو وضع حمل  
ہو جائیگا، اور لوگوں کو تم نشہ کی حالت میں دیکھیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے  
؛ اس لئے کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ) -

جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سفر میں تھے،  
سفر کے موقع پر یہ آیتیں، اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرات صحابہ ایک جگہ پر پڑا  
ڈالے ہوئے تھے، اور آرام کرنے کے لئے سایہ دار درختوں کے سایہ میں جا کر منتشر  
ہو گئے تھے، کوئی اس درخت کے پیچھے کوئی اس درخت کی آڑ میں، تمام صحابہ متفرق  
ہیں منتشر ہیں کہ اللہ کے نبی حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، جب یہ  
آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے سب کو جمع فرمایا، سارے  
صحابہ جمع ہو گئے۔

اللہ کے نبی حَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: لوگو! اس وقت میرے اوپر ابھی چند  
آیتیں نازل ہوئیں ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھ

کے سنانے لگے۔

(سنن کبریٰ نسائی: ۲/۷۰، مسند رک: ۳/۳۷، مسند

احمد: ۱۹۹۰، معجم کبیر طبرانی: ۵۲۶)

اب اس کی خطرناکی کا اندازہ کرو کہ ماں اپنے بچے کو کبھی بھولتی نہیں، وہ اپنے کو بھلا دیتی ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے؛ لیکن بچہ کو بھولتی نہیں ہے، کتنی بھی تکلیف آجائے، پریشانی آجائے، وہ اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے؛ لیکن اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں یہ صورتحال ہو گی کہ اپنے بچے کو ماں بھول جائیگی، وہ بھی کون سا بچہ جودو دھ پیتا بچہ ہے، اتنی خطرناک اور وحشت ناک صورتحال ہو گی کہ کوئی عورت حاملہ ہو گی تو اسے بچہ نکل آیا گا، اور لوگوں کے قدم خوف کی وجہ سے نشہ آور کی طرح لڑکھڑاتے اور ڈمگاتے ہوں گے۔

یہ ہے اس زمانے کے حال، جب اللہ کے نبی ﷺ نے صحابہؓ کرام کو یہ آیتیں سنائیں تو ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بعض صحابہؓ کرام چینیں مارنے لگے اور کپڑے پھاڑ لئے۔ یہ کیا ہے؟ دل کی نرمی کی کیفیت ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، کبھی اس کے مضامین پر غور کرنے کی ضرورت ہے؛ لیکن عام طور پر قرآن پڑھنے والے بہت کم اور قرآن پر غور کرنے والے تو اتنے کم کہ ہم تو اس کی کوئی گنتی اور حساب ہی نہیں بول سکتے کہ گنتی کم ہے یہ تعداد؟ اس لئے کبھی کبھی قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھو، ترجیح کے ساتھ پڑھو اور اس کے معانی اور مطالب کو دیکھو۔ اور ویسے بھی بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ الغرض قرآن کریم دلوں کو نرم کرنے کا عظیم سخن ہے۔

## حضرت عمر کے دل کو کس چیز نے نرم کیا؟

آخر سوچنے کی بات ہے حضرت عمر فاروق رض جیسے سخت دل انسان کو نرم کرنے والی کون سی طاقت تھی؟ کتنا بڑا سخت ترین آدمی، سخت دل انسان، ان کے اندر اتنی سختی تھی کہ وہ اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنا پڑا ”أَرْحَمُ أَمْتِي بِأَمْتِي أَبُوبَكْرٍ وَأَشَدُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرٌ“ کہ تمام صحابہ میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ابو بکر ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، بڑا گداز ہے۔ اور اللہ کے معاملہ میں سب سے زیادہ میرے صحابہ میں سختی برتنے والے وہ عمر ہیں، یہاں لگ بات ہے کہ اس وقت جوان کے اندر سختی تھی، وہ اللہ کے دین کے لئے سختی تھی۔ لیکن جب وہ کافر تھے، اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا نام لینے والوں کو مارتے تھے، ان کی ایک باندی مسلمان ہو گئی تھی، اس باندی کو اتنا مارتے، اتنا مارتے، اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تحک کر بیٹھ جاتے، یعنی اس خیال سے نہیں کہ یہ مار کھا کے تحک گئی ہو گی؛ بلکہ مارتے مارتے جب خود ہی تحک جاتے تو کچھ دیر کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حال تھا حضرت عمر کا۔

اسی سختی کا مظاہرہ کرنے کی نیت سے حضرت عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج (نحوذ باللہ) محمد کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ چنانچہ تواریخ نے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا اور ان کو بھی مارنے پر قتل گئے، صحابی نے کہا: مجھے کیا مارتے ہو؟ ذرا اپنی بہن کے گھر کا جائزہ لو، تمہاری بہن بھی تو محمد کی غلام ہو چکی ہے، یہ سننا تھا، بس وہیں ان کا دماغ پلٹ گیا ان کو تو چھوڑ دیا اور سیدھے پہنچ گئے اپنی بہن کے گھر، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن اور

بہنوئی دونوں حضرت خباب ابن الارت ﷺ سے قرآن سیکھنے اور پڑھنے میں مشغول تھے، حضرت خبابؓ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ دونوں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے قرآنی اور اق اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دیا، حضرت خباب کو کہیں چھپا دیا، حضرت عمر اندر گھسے اور پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! ہم محمد ﷺ پر ایمان لائے ہیں ایمان میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو پکڑ کر انہوں نے بہت مارا، بہن درمیان میں چھڑانے آئیں تو ان کو بھی مار دیا، بہت دریتک مارتے رہے، سخت دلی کا مظاہرہ کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھ کو بھی دکھاو، انہوں نے کہا تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں ہم کیسے یہ دیدیں؟ غسل کرو، وضو کرو تو پھر وہ چیز تھیں دکھائی جاسکتی ہے، حضرت عمر ﷺ نے غسل کیا، وضو کیا، پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ اوراق رکھے گئے جس کے اندر سورہ طائفہ کا تھی ہوئی تھی۔

اب حضرت عمر ﷺ پڑھنے لگے، وہ تو عربی زبان کے ماہر تھے، اب پڑھ رہے ہیں ﴿طَهٌ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذَكَّرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوَاتِ الْعُلَىٰ ☆ الْوَرَحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ إِسْتَوَى﴾ اب پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، دل نرم ہوتا جا رہا ہے، کہاں گئی سختی؟ اتنے سخت دل انسان کے سختی کا مظاہرہ کرنے نکلے کہ محمد ﷺ کو آج قتل کر کے چھوڑ دنگا، اور پھر یہاں آئے تو بہن اور بہنوئی کو مارنے لگے؛ لیکن اس کے بعد جب قرآن پڑھنے لگے تو وہی قرآن اب ان کے دل کو زخم کرنے لگا، کچھ دیر پڑھنے کے بعد بہن سے کہنے لگے میں بھی محمد کا غلام ہونا چاہتا ہوں، اللہ اکبر!

یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا اولین دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اور حضور ﷺ میں محبوس رہتے تھے، بند رہتے تھے چنان پھرنا آنا جانا لوگوں کے سامنے سے گزرنایاں کے لئے بہت زیادہ مشکل بات تھی، اللہ کے نبی ﷺ میں بند ہیں۔

ان کے بہن اور بہنوئی حضرت عمر کو لیکر دار ارقم پہنچے، اور دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی اندر سے آ کر دیکھتے ہیں، انہوں نے جھانک کر دیکھا تو خطرناک آدمی کھڑا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور جا کر اللہ کے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دروازے پر عمر کھڑے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، معلوم نہیں کیا ارادے سے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ﷺ اسی سے ایک رات پہلے اللہ سے دعا کر چکے تھے، اللہ کے نبی ﷺ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام (ابو جہل) ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان بنا کر دین کو تقویت عطا فرماء، اللہ کے نبی ﷺ نے رات کو یہ دعا کی تھی، جب یہ اللہ کے نبی ﷺ کو بتایا گیا کہ عمر کھڑے ہیں، تلوار لٹکی ہے، معلوم نہیں کیا ارادے سے آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی ﷺ کے ذہن میں آیا کہ ضرور اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا سترن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ﷺ کے حکم سے دروازہ کھولا گیا وہ اندر پہنچے اور جا کر ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی ﷺ پر ایمان لاتے ہی جو صحابہ پانچ دس وہاں موجود تھے انہوں نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ جتنا وہاں آس پاس کا علاقہ تھا وہ

سارا کا سارا گونج اٹھا۔

بہر حال یہ واقعہ میں اس لئے آپ کو سنایا کہ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل کو نرم کرنے میں قرآن کی ساروں ادا کرتا ہے؟ عمر جیسے سخت ترین انسان کے دل کو نرم کرنے والا یہ قرآن ہمارے دلوں کو بھی ضرور بدل دیگا؛ اس لئے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن پر یقین ہے تو پھر اللہ کے اس کلام کی وہ تاثیر ہمارے اوپر بھی ظاہر ہو سکتی ہے؛ لیکن بس ہمارے اندر کی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، غور و فکر سے پڑھتے نہیں ہیں، کیسی کیسی آیتیں ہیں، دل کو دہلا دینے والی، دل کی کایا پلٹ کر دینے والی، اللہ کے عذابات کی آیتیں، جنت کے احوال کی آیتیں، دوزخ کے احوال کی آیتیں، قبر کے احوال کی آیتیں، موت کا تذکرہ، موت کے وقت انسان کے اوپر پیش آنے والے احوال، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے قرآن میں پھیلائی ہیں اور ایسے عجیب عجیب انداز سے، عجیب عجیب طریقوں سے کہ انسان اسے پڑھنے تو ضرور بالضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔

### قرآن نے طفیل بن عمر و دوستی ﷺ کے دل کو بدل دیا

طفیل بن عمر و دوستی ایک دفعہ مکہ آئے تو مکہ کے لوگ جو بھی مکہ آتا تھا، اس کو یہ کہہ دینا اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ بھائی مکہ کے اندر ایک آدمی بہت بڑا جادوگر ہے؛ اس لئے تم کہیں بھی جاؤ ٹھیک ہے؛ لیکن اس جادوگر کے پاس نہ جانا، یعنی محمد ﷺ کے پاس، انہوں نے اس کا پروپنڈا کیا، لوگوں میں بات پھیلائی، چنانچہ لوگ آتے تو سب سے پہلے ان کے کان بھردیتے تھے، اور لوگ ڈر کے مارے جاتے نہیں تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی آیا تھا مکہ میں، آیا تھا کسی

مقصد سے تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے، بڑا جادوگر ہے تم اس کے قریب مت جانا، میں نے کہا کہ جادوگر ہے کیا کرتا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عجیب عجیب بتائیں کرتا ہے، تو جب وہ عجیب عجیب بتائیں کرتا ہے تو سب لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید ان کے اوپر کچھ جنات کا اثر ہو گیا ہوگا، یا اور کوئی بیماری کا اثر ہو گا، کہتے ہیں کہ میں ایک منتر پڑھا کرتا تھا، میں اس خیال سے ان کے پاس گیا کہ منتر پڑھکر ان کے اوپر کے وہ اثرات ختم کر دوں گا۔ اس کے لئے ان کے پاس جانا ضروری سمجھا، کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور جا کر میں نے کہا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ اللہ کے نبی ﷺ نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے ”انی رسول اللہ“ (میں اللہ کا رسول ہوں) انہوں نے کہا کہ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی ﷺ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا سنتا رہا، یہاں تک کہ میرا سارا جادو اتر گیا، منتر پڑھنے آئے تھے؛ لیکن خود کے اوپر کا جادو، اور خود کی برائی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے سارا کفر و شرک مت گیا اور اسی وقت میں نے کہا کہ مجھے بھی ایمان میں داخل کر لیجئے۔

لوگ کیا کیا ارادے لیکر آتے تھے، ایسے ارادے بھی کہ میں حضور ﷺ کی اصلاح کر دوں گا، ان کے جادو کو اتار دوں گا؛ لیکن جب اللہ کلام پڑھا جاتا تھا تو اللہ کے کلام کی تاثیر نہ مہوتی تھی، ظاہر ہوتی تھی اور ان کے دلوں کے اندر نرمی ایسی پیدا ہوتی کہ ایمان قبول کر کے جاتے تھے۔

## امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ كے دل پر قرآن کا اثر

قرآن پاک کی تلاوت بالخصوص غور و فکر کے ساتھ، مذہب کے ساتھ اگر کی جائے تو اس سے دل کو بہت زیادہ نرم کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔

امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے اور چار اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور بڑے اللہ والے بھی تھے، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، احادیث پڑھتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دل بہت نرم ہو گیا، امام شافعی کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے تھے اور ان آیات پر پہنچ جو سورہ مرسلات میں ہیں:

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يُطِيقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ ان آیتوں کو بار بار پڑھنے لگے اور وہ نے لگے یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر گئے؛ کیونکہ اس کے اندر مضمون ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: یہ قیامت کا دن ایسا ہو لنا ک دن ہے، جس دن کوئی بول نہیں پایا گا، بولنے کی سکت نہیں رکھے گا، اس قدر خوفناک، ہبہت ناک اور وحشت ناک وہ دن ہو گا، اور کچھ لوگ اگر بولنا بھی چاہیں گے تو ان کو معدرت کے لئے کوئی موقع نہیں دیا جائیگا کہ وہ اپنی معدرت پیش کرنے لگیں کہ میں نے کفر اس لئے کر دیا تھا، اے اللہ! میں نے شرک اس لئے کر لیا تھا، میں نے گناہ اس لئے کر دیا تھا۔ ان کو عذر و معدرت کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہو گی۔ جب یہ آیتیں پڑھنے لگے تو امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ پر حال طاری ہو گیا، دل کی نرمی کا یہ حال کہ بے ہوش ہو کر گئے۔

معلوم ہوتا ہے بھائیو! قرآن پاک اگر اس طرح پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ، معانی پر توجہ کے ساتھ تو دل پر ضرور بالضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔

## قرآن نے حضرت میمون بن مہران رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ کے دل کو زرم کیا

ایک دفعہ حضرت میمون بن مہران رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ جو بڑے اکابر محدثین و صوفیاء اور بزرگوں میں سے ہیں، ان کے بڑھاپے کا عالم تھا، چل نہیں پار ہے تھے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پیراٹھنا نہیں ہے، بیماریاں ان کو گھیرے میں لئے ہوئے ہیں، ایسے بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنے پیروں کے بل گھستنے ہوئے اپنے بیٹے کا سہارا لیتے ہوئے حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ کے دروازہ پر آگئے۔۔۔ حسن بصری اور میمون بن مہران دونوں ہم عصر بزرگ تھے۔۔۔ دروازہ پر آئے اور دستک دی، باندی نے آکر پوچھا کہ کون ہیں؟ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ یہ میرے والد حضرت میمون بن مہران ہیں۔ حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ سے ملنے آئے ہیں، ذرا ان کو اطلاع کر دو، ملاقات ہو جائے۔ باندی کہنے لگی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس بوڑھے کو کچھ کر لے آیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ باندی کو اس کا احساس ہونے لگا کہ ایسے آدمی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی آ جاتے۔

انہوں نے کہا کہ نہیں! نہیں! انہی کو ملنا تھا، اس لئے میں نہیں آ سکتا تھا، یہ ان کی ضرورت تھی، یہی آنا چاہتے تھے۔ الغرض حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ کو اطلاع دی گئی، اور ان کو اندر بلا کر بھایا گیا، حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ تشریف لائے خیر خبریت ہوئی، پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ حضرت میمون نے کہا کہ حضرت! دراصل بات یہ ہے کہ دل میں ذرا سختی محسوس کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کوئی ایسی بات کہہ دیجئے جس سے دل کی سختی دور ہو جائے۔

ذرا سوچئے کہ وہ بڑھاپے کے عالم میں ایک تو وہ خود کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، میمون بن مہران تاریخ کی عجیب شخصیت ہیں، محدثین میں تاج مانے جاتے ہیں،

صوفیاء میں ستارہ مانے جاتے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں؛ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ دل میں سختی پار ہا ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ان کو؟ کچھ نہیں بس قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بس جناب! آیتیں پڑھنا تھا، دونوں کا ایسا عجیب حال ہوا کہ یہ بھی زور زور سے رونے لگے، وہ بھی زار و قطار رونے لگے، کچھ دری تو بس رونے ہی کی مجلس قائم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دری کے بعد جب وہ ہتم گئے، سنبھل گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے دل کی سختی دور ہو گئی، اجازت دیجئے واپسی چاہتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو دلوں کی سختی کا بڑا احساس بھی ہوتا تھا، بزرگوں کے پاس آتے، پوچھتے حضرت! بتائیے کہ دل کو نرم کیسے کروں؟ اور دل کی سختی کو دور کیسے کروں؟ آج ہمارے دلوں میں اس لئے نرمی نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ سختی کا احساس بھی نہیں ہے؛ اس لئے سختی انتہا درجہ کو پہنچ گئی ہے۔ اور مذکورہ واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ تلاوت قرآن سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔

### ولید ابن عتبہ کے دل پر قرآن کا ثر

سیرت کامشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں ولید ابن عتبہ، کافروں کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف قاصد بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے مکہ کے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ایک پیغام دیکر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا پیغام ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آپ جو یہ دین کے نام سے ہمارے بتوں کے خلاف سازش چلا رہے ہیں اور ایک اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے مکہ کے سرداروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ

کامقصود اس سے یہ ہے کہ آپ یہاں کے حاکم اور بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں اور آپ کو ہم اپنا حاکم اور فرماں رو اتکلیم کر لیں گے؛ اور پھر کہنے لگا کہ سرداروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا مقصد اس دین کی دعوت سے مال پیسہ جمع کرنا ہے تو ہم سونے اور چاندی کے خزانے آپ کی خدمت میں لا کر ڈال دیں گے؛ لہذا آپ یہ چھوڑ دیجئے، اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے سرداروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا مقصد اس دین کی دعوت سے اور تحریک سے اگر یہ ہے کہ دنیا میں عیاشی کریں تو ہم آپ کو عیاشی کرنے کا پورا سامان بھی دینے کے لئے تیار ہیں؛ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اس دین کی تحریک کو چھوڑ دیں۔

ان تین باتوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول کر لیجئے، آپ حاکم بننا چاہیں تو ہم حاکم بنالیں گے، مالدار بننا چاہیں تو آپ کو سونا و چاندی دیکر آپ کو مالدار بنادیں گے اور آپ کو عیاشی چاہئے تو عیاشی کے اسباب آپ کے لئے فراہم کر دیں گے۔

جب وہ خاموش ہوا تو اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں! ختم ہو گئی، اس کا جواب چاہتا ہوں۔

اللہ کے نبی ﷺ نے اس کے جواب کے اندر سورۃ "حُمَّ الصَّلَاةُ" کی تلاوت شروع فرمادی، وہی جواب تھا حضور کی طرف سے، سورہ "حُمَّ الصَّلَاةُ" تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر قوم عاد اور قوم ثمود اور پچھلی قوموں کا تذکرہ آرہا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذابات آئے؟ اللہ کے نبی جب یہاں پر پہنچے تو وہ آدمی اپنے آپ کو سنجھاں نہیں پایا، اس کا دل اتنا نرم ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے منہ کے قریب اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا: محمد! بس کرو، بس

کرو، اگر آپ نے مزید پڑھ دیا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی رک گئے۔

اب اندازہ کرو کہ اتنے بڑے کافر کے دل پر اثر انداز ہونے والا اللہ کا یہ کلام اپنے اندر کیسی تاشیر کرتا ہو گا؟ لیکن آج ہم لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، بہت سارے ایسے ہیں کہ پورا پورا سال ہو جاتا ہے؛ لیکن قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ حافظ قرآن ہو کر بھی نہیں پڑھتے، بھائی اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کا کلام بھی سننے، اچھے اچھے قاریوں سے سننے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھتے، اور اس کے مضامین پر نگاہ ڈالتے ہوئے پڑھتے، ذرا توجہ کر کے پڑھتے، پھر دیکھتے کہ اللہ کے اس کلام کا کرشمہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟

### قرآن کا اثر کفار مکہ کے دلوں پر

سیرت کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کا معمول رات میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا تھا اور اس میں عام طور پر قرآن پاک جو پڑھتے تھے ذرا آواز سے پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل ابوسفیان اور اخشن بن شریق تین مکہ کے بڑے سردار ایک دوسرے سے چھپ کر اللہ کے نبی ﷺ کے مکان کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ کر قرآن سننے تھے، اللہ کے نبی ﷺ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھی جا رہی ہیں، عجیب عجیب کیفیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ اللہ کا کلام سننے کے لئے اور اس کی لذت و شیرینی اور مٹھاں کو محسوس کرنے کے لئے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر کے آئے ہوئے ہیں۔

ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ تو ویسے بھی عیاش، ثرا ب کے عادی،

راتوں کو تو ضرور شراب پیتے ہوں گے؛ لیکن اپنی شراب کو چھوڑ دیا، اپنی نیند کو بھی قربان کر دیا، راحت کو ترک کر دیا۔ اور قرآن سننے چلے آئے۔

جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ آہستہ سے نکل کر واپس ہو جاتے تھے، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جب نکل کر جانے لگے تو تینوں کی ایک موڑ پر آ کر ملاقات ہو گئی، اب ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ہم کو اس قرآن نے بے چین کر دیا تھا، رات کی نیند اس نے حرام کر دی ہے، ہم یہاں قرآن سننے کے لئے آئے ہیں۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو ہم ہی ایسا کرنے لگیں گے تو پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

چنانچہ تینوں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ کل سے پھر ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اب سب چلے گئے، جب رات ہوئی تو سب کو پھر بے چینی شروع ہو گئی، قرآن سننے کے لئے ترپ پیدا ہو گئی اور اندر سے حرص پیدا ہو گئی، رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہے ہیں، ابو جہل سوچنے لگا کہ ان دونوں نے تو وعدہ کیا ہے کہ نہیں آئیں گے؛ اس لئے وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں جاؤں گا تو کسے پتہ چلے گا؟ اوروہ اخنس بن شریق کہنے لگا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے میں چلا جاؤں گا تو کیا پتہ چلے گا؟ تینوں نے اسی طرح سوچا اور تینوں پھر جمع ہو گئے، اور صبح میں پھر ملاقاتیں ہو گئی، پھر آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، اسی طرح دو تین دفعہ ہوا۔ اندازہ کرنا چاہئے کہ ان کے دلوں کو قرآن نے کس قدر موم بنا دیا تھا۔ (الْخَاصُ الْكَبْرِيٰ: ۲۶۸)

اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنُتُهَا أَنفُسُهُمْ﴾ (یہ

سب یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے دلوں کو اس کا پورا پورا یقین ہے اور اطمینان ہے؛ لیکن اس کے باوجود حضن تکبر کی بنابر اس کا انکار کرتے ہیں) (سورہ نمل: ۱۷)

تو بھائی اس سے بتانا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی تاثیر کافروں کے دلوں پر بھی ہو رہی ہے، اگر قرآن اثر نہ کرتا تو کفار قرآن سننے اس طرح بے تاب کیوں ہوتے؟! بھائیو! جب اللہ کا پاکیزہ کلام کافروں پر بھی اثر کر سکتا ہے تو مسلمانوں پر کیوں نہیں کرے گا؟

### کثرت تلاوت اور حضرت شاہ عبداللطیف صاحب کا ذکر

لہذا قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، جو حافظ قرآن ہیں وہ کم از کم ایک پارہ پڑھیں، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، کتنی بڑی خدا کی دولت ہے؟ اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ بہت ہی عظیم الشان دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اس عنایت کی قدر یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھیں۔

ہمارے مدرسہ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جودی کی لال مسجد میں رہتے تھے۔ آپ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، توجہ لوگ ملنے لگے، ہمارے مدرسے کے اساتذہ و طلبہ بھی ملنے لگے تو حضرت نے ہر ایک سے معلوم کرنا شروع کیا کہ روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا آدھا پارہ، کسی نے کہا ایک پارہ، کسی نے کہا ڈیڑھ پارہ، حضرت بہت ناراض ہو گئے۔ حضرت نے کہا: علماء ہو کر، حفاظ ہو کر یہ حال ہے؟ کم سے کم پانچ پارے ضرور پڑھنا چاہئے۔ اور میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے، ان کا دن بھر قرآن

پڑھتے ہوئے گذرتا تھا۔

آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پانچ پارے نہیں پڑھ سکتے تو کیا بھائی دو پارے بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کم سے کم ایک پارہ تو پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن ہی اٹھا کر نہیں دیکھتے، یہ بہت ہی محرومی کی بات ہوتی ہے؛ اس لئے معمول بناؤ۔ اور جو عوام الناس ہیں، ان سے بھی میری گذارش ہے اور جو حفاظ و علماء ہیں، ان سے بھی میری گذارش ہے، اپنی حیثیت سے معمول مقرر کر لیں کہ ہم کو ضرور اتنا قرآن پڑھنا ہے۔

حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کہتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس طرح سنتے ہیں جیسے کوئی گانے والی گاتی ہے تو اس کا مالک اس کو سننے کے لئے متوجہ ہوتا ہے۔ (مسند احمد: ۲۳۹۲۷ رج: ۳۹)

پہلے زمانے میں گانے والیاں ہوتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو گانا سننے کے شوقین لوگ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، وہ ان سے گانا سنتے تھے۔ اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسی طرح اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں جیسے گانے کا شوقین آدمی گانے والی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

لہذا جب قرآن پڑھو تو یہ خیال کرو کہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرا یہ خیال کرو کہ اللہ سن رہے ہیں۔ جب اس تصور کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی تو اندازہ کریں کہ دلوں پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ دل کے اندر کس قدر گداز پیدا ہوگا اور نرمی پیدا ہوگی؟

## دلوں کو نرم کرنے کا دوسرا نسخہ - اللہ کا ذکر ہے

اس کے بعد دیکھتے دوسری چیز کو جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور سختی دور ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہیں تو انشاء اللہ دل کے اندر نرمی آئے گی؛ اس لئے کہ یہ اس کی خاصیت ہے۔

ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، زہر کی خاصیت، حلوے کی خاصیت، تانک کی خاصیت اور بادام اور حلوے کی خاصیت، ہر چیز کی ایک ایک خاصیت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کی بھی ایک خاصیت ہے۔

اور اللہ کے ذکر کی ایک ہی نہیں، بلکہ بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے بہت اہم خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے؛ اسی لئے بزرگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نرم دل تو وہی ہوتے ہیں؛ کیوں؟ اس لئے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر وہی کرتے ہیں۔ جو چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہوں، ان کے دلوں میں نرمی نہیں تو اور کیا ہوگی؟ نرمی اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر رحم و کرم کرتے ہیں اور دیگر مخلوقات پر بھی رحم و کرم کرتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كے پاس ایک آدمی آکر کہنے لگا کہ حضرت! میرے دل میں بڑی سختی معلوم ہوتی ہے، اس کے لئے کوئی علاج بتائیے۔ حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس آدمی کو لیجاو اور جہاں ذکر کی مجلس ہو، وہاں اس کو بھاواو؛ اس لئے کہ اس کے دل کو نرم کرنے کے لئے یہ اللہ کا ذکر مفید ہے۔

## کثرت ذکر کا حکم

اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عقائد و اقوال کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ﴾

(عقلمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے کسی وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں) (سورہ آل عمران/۱۹)

ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُو اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو) (سورہ احزاب/۳۱)

اور کثرت کسے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ نے کہا: کہ ایک آدمی کے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور چوبیس میں سے اکثر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تین حصے کر کے دو حصوں میں ذکر کرو، چوبیس گھنٹوں کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں تو کتنے ہونگے؟ آٹھ آٹھ گھنٹے، تین میں تقسیم ہو گئے، تو دو حصوں میں یعنی سولہ گھنٹے اللہ کا ذکر کرو، تب جا کر کثرتِ ذکر ہو گا، اور آٹھ گھنٹے آپ ذکر کریں، سولہ گھنٹے نہ کریں تو یہ قلتِ ذکر ہو گا۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ کثرتِ ذکر کا۔

### کثرتِ ذکر کا آسان طریقہ

مگر یہاں آپ پر بیشان نہ ہوں کہ کثرتِ ذکر کا اگر یہ مطلب ہے کہ سولہ گھنٹے ذکر میں لگائیں تو ہم یہ کام کیسے پورا کر سکیں گے؟ اللہ نے اس کے لئے بڑی آسانی کر دی۔ آسانی یہ کر دی کہ دین کا جو بھی آپ کام کریں اس میں نیت اللہ کی رضا کی کر لیجئے ذکر ہو جائیگا، نماز بھی آپ کا ذکر ہے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے، مدرس صاحب پڑھانے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کر کے پڑھانے کے لئے بیٹھیں تو ان کے پڑھانے کا پورا وقت ذکر ہے۔ علماء کے لئے تو بہت آسان ہے؛ اس لئے کہ وہ تو دن بھر پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، لہذا اپنے پڑھنے پڑھانے اور تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت، بیان و خطاب سب کے

اندر رضاۓ خداوندی کی نیت کر لیں، یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہو جائے گا۔  
یہ طریقہ تو علماء کے لئے ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جس سے علماء بھی اور عوام  
بھی دونوں کو کثرت ذکر اللہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حضور ﷺ کی دعاؤں کی دعا، پینے کی دعا، بیت الحلا آنے  
جانے کی دعا، جب یہ سارے کام دعاؤں کے ساتھ سنت کے مطابق انجام پذیر  
ہوں تو یہ سب کام ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحیح سے شام تک کے  
ہمارے سارے اعمال و افعال سنت کے مطابق اور دعاؤں کے ساتھ ہوتے رہیں  
گے تو یہ سب کام بھی ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں گے۔

سونا وجہا گنا، کھانا و پینا، باہر جانا و آنا، بیت الخلا جانا و آنا، کپڑے پہننا و نکالنا،  
جوتے پہننا و نکالنا، بازار جانا و آنا، تجارت و ملازمت کرنا، کسی سے ملنا و بات چیت کرنا،  
شادی و غمی، الغرض ہر موقعہ پر دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو ہمارا اکثر وقت ذکر اللہ  
میں لگ جائے گا۔ اب بتائیے کہ ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا یا نہیں؟ بہر حال ذکر کا  
اہتمام بھی دلوں کو زخم بناتا ہے۔

### ذکر اللہ دو کام کرتا ہے

ذکر اللہ دو طرح کا کام کرتا ہے، دل آگرنا پاک ہے تو اسے پاک بناتا ہے اور  
اگر وہ پاک ہے تو اس کی تعمیر بھی کرتا ہے، ہے تو ایک ہی چیز، لیکن کام دو کرتا ہے۔  
اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بعض اطباء کے یہاں بنے ہوئے حلوم ہوتے  
ہیں، ان میں سے بعض حلوم ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کو  
کھاتا ہے تو بیماری کو نکالے گا اور پھر اس کے بعد بھی جاری رکھے گا تو قوت دیگا۔  
دیکھئے حلوم تو ایک ہی ہے؛ لیکن کام دو کرتا ہے۔ جس طریقہ پر دنیا کے یہ حلومے بیک

وقت دوکام کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ”اللہ کا ذکر“ بھی ایک حلوہ ہے جب تک آپ بیمار ہیں اس کو کھائیں گے تو بیماری دور ہوگی، روحانی بیماری، گندگی و آلائش و ناپاکی دل سے نکلتی رہے گی، اور اس کے بعد بھی ذکر اللہ جاری رہے تو دل کے اندر دوسرا خوبیاں اور کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تولیاء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے توبہ ہونا چاہئے کہ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کریں۔

### ذکر اللہ کا فائدہ ترک معصیت پر موقوف

ایک اور ضروری بات ہے، وہ یہ کہ ذکر اللہ اس وقت کریں جب کہ گناہ چھوڑنے کا عزم ہو چکا ہو، اگر ایسا نہیں کیا بلکہ ایک طرف گناہ بھی جاری اور ایک طرف ذکر بھی جاری ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کٹورے کے اندر روزانہ گندگی بھی جمع کر رہا ہے اور اس کے اندر شربت بھی ڈال رہا ہے۔ غور بکجھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ایک طرف سے گندگی بھی جمع کر رہا ہے، آنکھ سے گندگی، کانوں سے گندگی، ہاتھوں اور پیروں سے گندگی دل میں جمع کر رہا ہے اور دوسرا طرف ذکر بھی کر رہا ہے تو ذکر کا فائدہ اس سے نہیں معلوم ہوگا۔

عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف ذکر بھی کرتے ہیں اور دوسرا طرف گناہ بھی کرتے ہیں۔ دل کو دھونا ہو صاف کرنا ہو، تو پہلے گناہوں کو ترک کر دینا چاہئے اور جو گندگی و غلطات پہلے سے جمع ہے، اس کو صاف کرنے کے لئے ذکر کریں تو انشاء اللہ ذکر کی برکت سے وہ ساری گندگی و ناپاکی دور ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا سلوک کی سب سے پہلی منزل ترک معصیت اور توبہ ہے، اس کے بغیر آگے کی منزلیں کبھی طے نہیں ہو سکتیں، اگر گناہوں سے توبہ نہیں کیا اور چل رہا ہے

تو چلے گا چلے گا؛ لیکن رات ہو جائیگی پھر صح اٹھے گا تو جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہو گا۔  
اسی طرح بھائیو! جب سالک اللہ کی راہ میں چلے گا تو اسے گناہوں کو چھوڑ کر آگے  
برٹھنا ہو گا، اگر وہ گناہوں کے ساتھ آگے بڑھے گا تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ پا یگا،  
صح سے چلے گا شام تک، شام سے صح تک؛ لیکن ہو گا وہیں جہاں سے وہ چلا تھا۔

### ایک عمدہ مثال

اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کنویں میں چوہا گر گیا تو علماء لکھتے ہیں کہ میں  
ڈول پانی نکالنے سے وہ کنوں پاک ہو جائیگا، اگر کسی کنویں میں کوئی کتا گر گیا تو اس  
میں سے پورا پانی نکالنے پر کنوں پاک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی صاحب نے چوہا گرنے  
پر میں ڈول پانی نکال دیا، لیکن چوہا اندر کا اندر ہی ہے، چوہے کو نہیں نکالا، اسی طرح  
کتنے کے گرنے پر پورا کنوں خالی کر دیا، لیکن کتنے کو باہر نہیں نکالا، پھر اس کے  
اندر سے پانی آنا شروع ہو گیا تو نکالنے والے بے وقوف نے سوچا کہ میں نے پورا  
کنوں خالی کر دیا ہے اور اب میرا پورا کنوں پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔

حالانکہ اس نے اس کتنے یا چوہے کو نہیں نکالا جس کی وجہ سے کنوں خراب ہوا  
تھا، تواب بتائیے کہ کتنے کو نکالے بغیر، یا چوہے کو نکالے بغیر کنوں کیسے پاک ہو سکتا  
ہے؟

اسی طرح دل کے کنویں میں معصیت و گناہوں کی نجاست پڑی ہوئی ہوا اور  
آپ اس کو صاف کرنے کے لئے ذکر اللہ کا ڈول ڈال کر پانی نکالدیں؛ لیکن  
اندر گناہوں کی غلط نجاست و میسی ہی پڑی رہے، یعنی گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے،  
گناہ برابر جاری ہے اور اپر سے ذکر اللہ سے پانی بھی نکال رہا ہے، کیسے کنوں پاک  
وصاف ہو گا؟ جیسے وہاں مرے ہوئے کتنے یا چوہے کو نکالے بغیر کنوں پاک و صاف

نہیں ہوتا، اسی طریقے پر یہاں گناہوں کی نجاست کو باہر نکالے بغیر یہ دل بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔

تو پہلے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے اور ان سے توبہ واستغفار کرنے کے بعد ذکر اللہ اپنا کام کام کرتا ہے۔

کیا گناہ چھوڑنے سے پہلے ذکر نہ کریں؟

یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہماری اس بات سے یہ سمجھیں کہ جب تک گناہوں کو نہ چھوڑ دیں اس وقت تک ذکر اللہ نہ کرنا چاہئے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ذکر اللہ کا فائدہ گناہ چھوڑنے والے کو ہوگا، اور جو گناہ نہ چھوڑے اس کو ذکر اللہ کا فائدہ نہیں ملے گا۔ باقی ذکر اللہ تو سبھی کو کرنا چاہئے، گناہ گار بھی ذکر اللہ کرے اور نیک لوگ بھی ذکر اللہ کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں۔ یہاں ہماری تقریر سے ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ ذکر اللہ کا اصل فائدہ آدمی کو اس وقت ملتا و حاصل ہوتا ہے جب وہ گناہوں سے بازاً جاتا ہے۔

### دل کو نرم کرنے کا تیسرا نسخہ—موت کی یاد

تیسرا بات دل کو نرم کرنے کی یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کیا جائے، آج کل لوگوں کو موت کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے، جی! موت تو ڈرنے ہی کی چیز ہے؛ لیکن موت کے ذکر سے نہیں، موت سے ڈرنا چاہئے۔ لوگ موت سے تو ڈرتے نہیں، موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے؛ اس لئے کہ موت سے تو کوئی چارہ کا رہیں، اس سے تو چھٹی کسی کو نہیں، موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ذکر کریں گے تو موت آ جائیگی، حالانکہ موت اپنے مقررہ

وقت پر آئے گی، اور اس سے کسی کو مفر نہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لو مرٹی نے ایک دفعہ زمین سے قرض لیا، بہت زمانے کے بعد ایک دن زمین نے لو مرٹی سے کہا کہ اے لو مرٹی! فلاں وقت تو نے مجھ سے قرض لیا تھا، میرا قرض واپس کر، تو لو مرٹی قرض واپس کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے بھاگتے تھک گئی، بہت دور جانے کے بعد جب ٹھیر گئی، تو ٹھیرتے ہی زمین تو نیچے تھی، ہی، اس نے کہا: لا و میرا قرض، تو اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتی رہی، بھاگتی رہی، کہاں تک بھاگے گی؟ اسی زمین پر تو بھاگے گی، بھاگتے بھاگتے بہت دور جانے کے بعد اپنے سوراخ میں داخل ہو گئی، تو پھر زمین نے کہا: لا و میرا قرض، تو وہ پھر بھاگنے لگی اور یہاں تک کہ اس کی گردان جدا ہو گئی اور وہ مر گئی۔ (معجم کبیر للطبرانی: ۶۹۲۲)

مطلوب اللہ کے نبی ﷺ کا یہ ہے کہ موت سے بھاگنے والی کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جیسے لو مرٹی زمین سے بھاگ کر کسی اور جگہ نہیں جا سکتی، اسی طریقے پر کوئی آدمی موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، موت تو ایسی چیز ہے کہ کیسے بھی محل بنائے جائیے موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائیگا۔

تم کہیں بھی رہو موت آئے گی، ایک عجیب واقعہ

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

﴿إِنَّمَا تُكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوقٍ مُّشَيَّدَةً﴾  
(جہاں کہیں تم رہو گے موت ٹھہیں آپکڑے گی اگرچہ مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہو) [النساء: ۷۸]

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ کسی پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی گھر میں ملازم تھا، غلام تھا، اس گھر میں رات کے وقت ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، اور لائٹ کا کوئی انتظام وہاں تھا نہیں، چراغ تھا جو اتفاق سے بچ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ چراغ جلا تو وہ غلام چراغ کی تلاش میں باہر نکلا، جب باہر نکلا تو دروازے پر ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس آدمی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ چراغ جلانے جا رہوں، یہاں ایک بچی پیدا ہوئی؛ لیکن چراغ گل ہو گیا، معلوم نہیں کیسی بچی ہے کہ چراغ ہی گل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ وہ بچی جواب بھی پیدا ہوئی ہے، یہ ایسی ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت ہو گی؛ لیکن ایک سو آدمیوں سے زنا کرے گی، اور اس لڑکی کی موت بکڑی کے کامنے سے ہو گی۔

یہ سن کر اس غلام کو طیش آگیا، وہ غلام گھر واپس گیا اور یہ سوچ کر کہ ایسی لڑکی کے جینے سے تو مرننا اچھا ہے، اس نے چھری اٹھائی اور اس بچی کے پیٹ میں گھونپ دیا اور مار کر باہر نکل گیا اور یہ سمجھ کر چلا گیا کہ میں تو اسے مار چکا ہوں وہ مر گئی ہو گی، لوگ مجھے تلاش کرنے لگ جائیں گے؛ اس لئے وہاں سے راہ فرار اختیا کر کے کسی اور ملک میں وہ پہنچ گیا، یہاں جب لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے بچی کو مار دیا، اب انہوں نے ڈاکٹروں کو بلا یا جو کچھ کرنا تھا انتظام کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا یہاں تک کہ وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کی جان پنج گئی اور یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی۔

اور وہ غلام کسی اور ملک کے اندر رہتا، وہاں خوب سکمایا، مالدار بن گیا، ایک دن اس کی خواہش ہوئی کہ شادی کرے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، جو حسین ہو، خوبصورت ہو، دنیا کی بہترین لڑکی ہو، ایسی لڑکی تلاش

کر کے مجھ سے شادی کراؤ، اب لوگوں نے تلاش کرنے کے بعد کہا کہ ایک جگہ ایک لڑکی ہے، بہت حسین ہے، خوبصورت ہے۔

چنانچہ اس نے اس سے شادی کر لی، شادی کے بعد وہ عورت اسے بہت پسند آئی؛ اس لئے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، اس نے اس کے لئے ایک عالی شان محل تیار کروایا اور شیشہ کا بنایا اور اس محل کے اندر بہت سجاوٹ کی۔ ایک دن شوہر کی نگاہ بیوی کے پیٹ پر پڑی تو دیکھا کہ ایک نشان ہے، اس نے پوچھا کہ تمہارے پیٹ پر یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کسی آدمی نے میرے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا تھا؛ لیکن ڈاکٹروں سے علاج کراکے میرے خاندان والوں نے میری جان بچائی تھی اور میں بڑی ہو گئی؛ لیکن وہ نشان ویسے ہی باقی ہے۔ یہ سن کر اسے فوراً یاد آگیا کہ یہ تو میں ہی تھا جس نے پیدا ہونے والی بچی کو چھرا گھونپ دیا تھا، جب اس نے معلوم کر لیا اور یقین ہو گیا کہ وہی لڑکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ! تیرے بارے میں دوبارہ میں مجھے معلوم ہیں، میں اللہ کا واسطہ دیکر کہتا ہوں، جھوٹ مت بولنا، اس نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ تو سوآدمیوں سے زنا کرائیگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس عورت نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اب اسے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جو میں نے سنا تھا وہ بالکل سچ ہے، خیر اس نے اسے درگذر کیا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اچھے طور سے رہنے لگا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی کی موت ایک مکڑی سے ہو گی، تو اس نے محل میں یہ انتظام کیا کہ کوئی مکڑی وہاں جالہ نہ تانے، انتظامات کر کے اس محل میں رہ رہے تھے، ایک دن دیکھا کہ محل میں مکڑی آگئی ہے، فوراً وہ گھبرا گیا اور اٹھ کر اسے باہر کرنا چاہا تو وہ لڑکی خود اٹھی اور اس نے کہا کہ میں اسے باہر کرتی ہوں اور اس نے اسے مارنا چاہا تو اس

عورت کا پیر اس مکٹری پر پڑا جس کی وجہ سے اس کا زہر اس کے اندر چلا گیا، اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

بہر حال بھائیو! اس سے یہ بتانا تھا کہ انسان کہیں بھی ہو، موت آپکٹے گی؛ اس لئے موت کا دھیان ہو، موت کی فکر ہو، موت کے بارے میں غور و فکر جاری رہے، کبھی اپنے اوپر موت طاری کر کے سوچ یعنی اپنے دماغ میں اور اپنے تصور میں کہ گویا میں مر رہا ہوں، مجھے نہ لایا جا رہا ہے اور مجھے اٹھایا جا رہا ہے، مجھے لے جایا جا رہا ہے مجھے دفنایا جا رہا ہے، جو آدمی یہ بات سوچے گا کیا اس کے اندر نرمی نہیں آئیگی؟ ضرور آئیگی۔

ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رض عنہا کی خدمت میں آئی اور آکر اس نے دل کی سختی کا علاج پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ: ”اکثری ذکر الموت، یوں قلبک“ (یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا کہ اس سے تیرز دل نرم ہو جائے گا) جب اس نے یہ کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔

(تذكرة للقرطبي: ۱۲/۱، العاقبة في ذكر الموت: ۱۳، أحياء العلوم: ۲۵۱/۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرنا یہ بھی دل کو نرم کرنے میں بہت ہی مفید ہوتا ہے۔

**دلوں کو نرم کرنے کا چوتھا نسخہ - قبروں کی زیارت**  
چوتھی بات جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جو دراصل تیسری بات کا جز ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت کرنا اور، کبھی کبھی قبرستان جانا۔

اللہ کے نبی ﷺ نے اسی لئے فرمایا:

”كُنْتُ نَهِيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الْآخِرَةَ“

(میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا؛ لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو؛ اس لئے کہ وہ آخرت کو یادداشتی ہے) (مسلم: ۲۳۰۵)

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے بنی حلی (فَلَمَّا كَانَتِ الْأَيَّامُ الْكُلُوبُ مُنْتَدِلاً) نے فرمایا:

”مَا رأيْتُ مَنْظُراً قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَعَ مِنْهُ“

(میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیا نک نہیں دیکھا) (مسند احمد: ۲۵۳)

کیسا بھی انک منظر ہے، دیکھو! مٹی میں لیجا کر اپنے باپ کو دفن کر دیتے ہیں، وہ باپ جب زندہ تھا تو اگر نیچے زمین پر بیٹھ جاتا تو آپ کو گوارا ہوتا؟ کسی میلی جگہ بیٹھ جاتا تو آپ کو گوارہ ہوتا؟ نہیں، اور آپ کہتے اباجی! اور پڑھتے، صوفہ پر بیٹھتے؛ لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو مٹی میں کیسے لے جا کر سلاادیتے ہیں؟ کتنا بھی انک منظر ہے؟ اس لئے قبر کو سوچنا دل کو نرم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، قبر کو بنانے کی فکر پیدا ہوتی ہے، قبر کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ وہاں جانے کے بعد اس قبر کا نقشہ ہی کچھ اور ہو، تاحد نظر و سمع ہو، اس کے اندر لا مٹنگ ہو، اس کے اندر بستر ہو، اس کے اندر آرام کی چیزیں ہو۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں آدمی سے سوال وجواب ہوگا اور وہ ساری باتوں کا جواب دے دیگا تو اللہ تعالیٰ کافر شتوں کو حکم ہوگا کہ:

”صَدَقَ عَبْدِيُّ ، فَأَفْرَشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَ أَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَ افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ“ (ابوداؤد: ۲۷۵۳، مسند احمد: ۱۸۵۳)

(میرے بندے نے سچ کہا، لہذا میرے بندے کو جنت کا لباس لا کر پہنا اور جنت کا بچھونا بچھا، اور جنت کی جانب ایک کھڑکی کھول دو)

فرشته جنت کا لباس پہنا میں گے اور جنت کا بچھونا بچھا سینگے اور اس سے کہیں

گے ”نم کنومہ العروس“ (لہن کی طرح سوجاو)، وہ کہے گا کہ سونے کی بات کیا کرتے ہو؟ ذرا اجازت دو کہ گھروالوں کو بتا کر تو آؤں کہ کیسی کیسی نعمتیں یہاں مجھے ملی ہیں۔

دیکھئے کہ اسے اس وقت خواہش ہو گی کہ بیوی روتی ہو گی، بچے روتے ہوں گے، رشتہ دار پریشان ہونگے؛ اس لئے میں جا کر ان کو یہاں کی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں؛ لیکن اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نہیں نہیں، تم سوجاو، تم کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں اٹھایا گا، قیامت کے دن جب وہ اٹھایا گا تب اٹھ جانا۔

### ہمارے قلوب کی سختی کا حال

بھائیو! ہمارے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہو گیا کہ قبرستانوں میں جا کر لوگوں کو اپنی قبریاں نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی، عجیب حال ہے کہ مردے کو دفن کر رہے ہیں اور بازو کھڑے ہو کر نہیں رہے ہیں، مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور یہاں فنوں سے دنیا کی بات چیت جاری ہے، ایک بندہ اپنی آخرت کے لئے ایک اور منزل کو پہنچ گیا اور یہ بندہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی دنیا کا حساب و کتاب لگا رہا ہے، دلوں کی سختی کا عالم دیکھو کیا ہے؟ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا اور فرمایا ہے:

﴿اللَّهُمَّ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [التکاثر: ۱]

(دنیا کے مال و زر کی فراوانی نے یا تمہارے فخر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم اسی غفلت اور اسی لاپرواہی کے ساتھ قبرستان بھی پہونچ گئے)

علماء نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں:

(۱) ایک تفسیر ”حتیٰ زرتم المقاابر“ کی یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم نے

قبرستانوں کی زیارت کر لی، تب بھی غفلت دور نہیں ہوئی، دلوں کی سختی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی تمہارے قلب کی سختی دور نہیں ہوئی۔

(۲) اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ”یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے“، یعنی تم پر موت بھی طاری ہو گئی، مگر اس کے باوجود تم تفاخر میں بتلا ہو۔

دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ قبر کے پاس جا کر بھی شقی بن جاتا ہے؛ اسی لئے جتنے مجاور ہیں، وہ سب سے زیادہ سخت دل ہیں؛ حالانکہ بیٹھے ہیں اولیاء اللہ کے مزاروں پر، بیٹھے ہیں قبر کے قریب؛ لیکن ان سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں؛ مگر اپنی قبر کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہیں لوگوں کو لوت رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ بُور رہے ہیں، گانجہ مار رہے ہیں۔ بتاؤ کہ ان سے زیادہ بدجنت اور ان سے زیادہ شقی القلب اور ان سے زیادہ قسی القلب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ قبر کے پاس بیٹھ کر بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور اپنی موت یاد نہ آئے، دل میں اس کا ذرہ برابر تصور بھی نہ ہو، اس لئے میں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ سخت دل ہیں۔

### قبرستان کو قبرستان رہنے والے

اس سختی و قساوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ آج قبرستانوں کو قبرستان نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ قبروں کو گلستان بنارہے ہیں، بلڈنگ بنارہے ہیں، گنبد بنارہے ہیں، بعض قبروں کو دیکھا کہ اس کو ماربل سے بنایا گیا ہے، اور اس پر ایک ایک یادو دو لاکھ کا خرچ ہوا ہے، بعض پر پانچ لاکھ خرچ ہوا ہے، اور اس میں مقابلہ بھی ہو رہا ہے،

یہی ہے تفاخر، جس کا ذکر آیت میں ہے، حالانکہ قبرستان کے لئے حکم یہ ہے کہ قبرستان کو قبرستان ہی رہنے دو، ہاں! ذرا سا بس نشان کے طور پر کوہاں کی شکل بنادیا جس کو ”مسنم“ کہتے ہیں یعنی اونٹ کی کوہاں کی طرح بنادیا جائے، بس اتنی بات کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ جلوگ قبروں پر عمارتیں بنادیتے ہیں، قیامت کے دن ان مردوں کو اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوگی، پہلے ان کو وہ ساری عمارت نکالنی پڑے گی، پھر باہر آنا ہوگا۔ ارے! ان کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ آرام سے اٹھ جائیں، آرام سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں جائیں، ایسی راہ ان کے لئے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

### ایک شبہ کا جواب

کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب قبروں کو مضبوط کرنا، اس پر تعمیر کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ کے نبی ﷺ کی قبر کو کیوں مضبوط بنایا گیا ہے اور کیوں اس پر گندب تعمیر کیا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ﷺ کا حکم نہیں تھا، صحابہ کا حکم نہیں تھا، علماء و مفتیان کرام کا فتویٰ نہیں تھا، اکابرین اس سے راضی نہیں تھے، آپ ﷺ نے تو اپنی تعلیمات میں اس سے منع کیا ہے؛ مگر بعد کے کچھ جاہل بادشاہوں نے بنادیا تھا، اسی لئے حضرات صحابہ کی کتنی مزاریں بنیں، کیا کوئی مزار ایسی بنائی گئی؟ بنانے کے بعد جب علماء سے اس کا فتویٰ طلب کیا کہ بنانے والوں نے اللہ کے نبی ﷺ کی قبر اطہر پر یہ سب کچھ بنادیا ہے،

کیا اب اس کو باقی رکھیں یا توڑ دیں؟ علماء نے کہا کہ بنانا جائز نہیں تھا، لیکن بنانے والوں نے جب غلطی سے بنا، ہی دیا تواب توڑنا بھی جائز نہیں، کیوں؟ بے ادبی ہو گی، گستاخی ہو گی، وہاں توڑ پھوڑ ہو گی جو اللہ کے نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو اذیت و تکلیف پہنچانے والی بات ہے؛ اس لئے یہ بھی نہ کرو، جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دو؛ اس لئے اب وہ اسی حالت پر باقی ہے۔ تو بہر حال بتانا یہ ہے کہ قبروں کو اس طرح رکھنا چاہئے جیسے کہ اللہ کے نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اس کو سادے سیدھے طریقہ پر چھوڑو تاکہ وہاں جانے والوں کو عبرت ہو اور اپنی موت یاد آئے، اپنی قبریاد آئے، جب اس طریقے پر جانا اور آنا اور اس کی زیارت کرنا ہو گا تو انشاء اللہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو گی۔

### دولوں کو نرم کرنے کا پانچواں نسخہ - اہل بکاء کی صحبت

آخری بات جس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اہل بکاء میں بیٹھنا، یعنی رونے والوں کے ساتھ بیٹھنا، جو اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں اور اپنے احوال پر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوں، روتے ہوں اور اتوں میں اٹھ کر اپنے خالق کو پکارا کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی صحبتوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑا شر کرتا ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہنسنے والوں کی مجلس میں بیٹھو تو ہنسی آتی ہے اور رونے والوں کی مجلس میں بیٹھو تو رونا آتا ہے۔ تو اسی طرح رونے والوں کی صحبت سے بھی دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے؛ اسی لئے بہت سی احادیث میں اور علماء کے پیاتا میں یہ بات ملتی ہے کہ ”مجالست علماء“ ضروری ہے، علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن کے اندر خوف خشیت تقویٰ ہو، ایسے علماء کے پاس بیٹھنے اور اٹھنے سے بھی دولوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔

یہ چند باتیں دلوں کی سختی دور کرنے اور نرمی پیدا کرنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے لائی گئیں: پہلی بات قرآن کی تلاوت، دوسری بات ذکر اللہ، تیسرا بات موت کی یاد، چوتھی بات قبروں کی زیارت اور پانچویں بات علماء یعنی اہل بکاء کی صحبت، یہ پانچ باتوں کا اہتمام کر یہنگے تو انشاء اللہ دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی جائے گی، ان چیزوں کا مسلسل اہتمام باقی رکھنے سے انشاء اللہ ایک دن پتھر اور پہاڑ دل بھی نرم ہو کر پانی پانی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائیں۔

## تعمیر قلب کی آخری منزل

جب آپ ایک طرف دل پر ہونے والے شہوات کے حملوں سے اپنے دل کو بچا کر سختی دور کر لیں اور دوسری طرف دل میں نرمی پیدا کرنے کے نسخے استعمال کر کے دلوں میں نرمی پیدا کر لیں تو اب آپ کو دل کے تعمیر کی آخری منزل طے کرنا ہے، وہ یہ کہ اس عالی شان محل اور پاکیزہ مکان میں عظیم الشان مکین کو لا کر بسانا ہے۔ جس طرح آپ نے کسی جگہ کو مکان بنانے کے لئے منتخب کر لیا وہاں جھاڑ جھنکا ر تھے، گڑھے تھے، کانٹے تھے، تو سب سے پہلے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، وہاں جو جھاڑ جھنکا ر ہیں ان کو نکالتے ہیں، گڑھوں کو بند کرتے ہیں، کانٹوں کو نکالتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہاں ہروہ چیز جو تعمیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والی موجود ہو، سب سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں۔ پھر مختلف تعمیری اشیاء کو لا کر جوڑتے ہیں، اس طرح گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس مکان میں مکینوں کو لا کر بساتے ہیں۔ اگر مکان تو عالی شان بن جائے؛ مگر اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ مکان نہیں؛ بلکہ

کھنڈر کھلاتا ہے، تعمیر کی محنت بے سود ہو جائے گی، اسی طرح دل کا مکان تعمیر ہو جائے، سچ جائے، آراستہ ہو جائے، مزین ہو جائے مگر اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو تو پھر تعمیر کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

بھائیو! دل کے جس مکان کی تعمیر کے لئے آپ نے اتنے مجاهدے کئے، خواہشات کو کچلا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، شہوات سے پرہیز کیا، لذات سے اجتناب کیا، معصیت سے دوری اختیار کی، نگاہوں پر کنٹرول کیا، زبان کو قابو میں رکھا، کانوں کی حفاظت کی، الغرض ہر گندگی و آلودگی کو اور نجاست و غلامظت کو کھرچ کھرچ کرنکال پھینکا، اس کے بعد ذکر اللہ سے، قرآن کی تلاوت سے، عبادت و نیکیوں سے دل کے گھر میں بیل بوٹے لگائے، راتوں میں خوف الہی کے آنسوں بہا کر دل کو سیراب کیا، راتوں کی نیند حرام کی، دن کا چین ختم کیا، اتناسب کچھ اس دل کے مکین کو بسانے ہی کے لئے تو کیا اور کیا مقصد تھا؟

## دل کے گھر کا مکین کون ہے؟

اب سوچئے کہ وہ کون ہے جو اس قلب میں بسنے والا ہے؟ اس دل کے گھر میں بسانے کے قابل تoxid اسی کی ہستی ہے، یہ گھر اسی کے لئے سجا یا ہے، یہ گھر اسی کے لئے بسانا ہے، یہ تعمیر اسی کے لئے کی گئی ہے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بسانا ہے۔

ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ما وسعنی سماںی و لا ارضی ولكن وسعنی قلب عبدی المؤمن“ (میں زمین میں نہیں سما سکتا، آسمانوں میں نہیں سما سکتا اگر میں کہیں سما سکتا ہوں تو میں مؤمن کے دل میں سما سکتا ہوں۔

لیکن یہ حدیث محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کی کوئی سند بھی ثابت نہیں ہے۔ (اللائل المصنوعة: ۱۳۵، المصنوع: ۱۶۲، المقاصد الحسنة: ۵۸۹)

ہاں! علامہ سخاوی نے ایک اور حدیث اس معنی کی طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ: ”ان لله آنية من أهل الأرض، و آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها اليه ألينها وأرقها“  
 (بلاشبہ اہل زمین میں سے کچھ اللہ کے برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک و صالح بندوں کے قلوب ہیں، اور ان میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سے زیادہ زرعی و رقت والے ہیں) (المقاصد الحسنة: ۵۹۰)

یہ ہے مؤمن کا دل، جس کو یوں سجنانا ہے، اس کو یوں بنانا و سنوارنا ہے، جب یہ  
 یوں سچ جائیگا اور در حجج جائیگا تو اب آپ یوں کہئے کہ  
 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی  
 اب تو آجا ب تو خلوت ہو گئی

یہ تیرے لئے میں نے سجادیا ہے، میں نے اس کے اندر سب چیزیں صحیح صحیح لا کر رکھ دی ہیں اور خاص تناسب کی رعایت کے ساتھ سب چیزیں اس کے اندر بسادی ہیں، اب یہ گھر کسی کے لئے نہیں ہے، اس میں نہ میرا باپ رہے گا، اس میں، نہ میری ماں رہے گی اور نہ ہی میرے بچے رہیں گے، نہ میری بیوی رہے گی، نہ میری دولت رہے گی، نہ میرا دوست رہیگا، نہ میرا خاندان رہیگا، نہ دنیا رہے گی، نہ دنیا کا ساز و سامان رہیگا۔ غرض دنیا کی اس میں کوئی چیز نہیں رہے گی، اس میں اگر کوئی رہے گا تو اے میرے مالک! صرف تو رہے گا۔

حضرت حکیم الامۃ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو موزوں کیا تھا، جب یہ شعر موزوں ہوا تو وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور ان کو یہ شعر سنایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شعر سن کر وجد طاری ہو گیا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ بھی ہوتے تو وہ تمہیں دیدیتا۔ واقعی یہ شعر ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی بھی نہ ہو اور نہ کوئی بد عقیدگی کا دروازہ کھلے، وہ یہ کہ اس حدیث میں یا اس شعر میں اللہ کے برتن یا گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نعمود باللہ اللہ قیام کرتے ہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس میں اللہ کی محبت و خشیت سماتے ہیں، اللہ پر ایمان و یقین اس میں داخل ہوتے ہیں۔

### دل بنانے کے لئے بھی انجینئر چاہئے

تعمیر قلب کے سلسلہ میں آخر میں دو قسمی مشورے دینا چاہوں گا، جو بہت ضروری ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ گھر بنانے والا خود ہی گھر نہیں بنایا کرتا؛ بلکہ کسی انجینئر (Engineer) سے مشورہ کرتا ہے، اگر کوئی انجینئر سے مشورہ کئے بغیر گھر بناتا ہے تو گھر تو بن جائیگا؛ لیکن وہ اچھا نہیں بنے گا۔

بھائیو! اسی طریقہ پر پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی تعمیر کے لئے جب آپ آغاز کرنا چاہیں تو کسی انجینئر سے مشورہ کر لیجئے، مشورہ کی خاص برکت ہوتی ہے۔ اور مشورہ ان سے کچھ جو اس کے فنکار ہوں اور دل کے فنکار اہل اللہ ہیں، اہل دل ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ تعمیر قلب کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اس میں کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، جب آپ لوگ عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں، اذکار و نظائف میں چلیں تو آپ کو کس طریقہ پر چلنا چاہئے۔ کچھ چیزیں تو شریعت نے عام رکھی ہیں، اس کے لئے مشورہ کی ضرورت نہیں

پڑتی؛ لیکن کچھ چیزوں میں مشورہ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نماز پڑھنے کا نمبر آئے تو بغیر مشورہ کے نماز پڑھنا چاہئے؛ اس لئے کہ نماز تو فرض ہے اور اس کی تعداد مقرر ہے، مقدار مقرر ہے، ترتیب و طریقہ مقرر ہے، یہاں کسی رائے و مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں؛ لیکن نوافل پڑھنا ہو تو شیخ سے مشورہ کرے، اذکار کرنا ہو تو مشورہ کرے، اسی طریقہ پر خاص و ظالِم اور مختلف قسم کی عبادات میں سے جو نوافل ہیں، ان میں مشورہ کرے۔

بھائی! اگر بغیر مشورے کے آگے بڑھے تو ذکر تو ہو گا، لیکن ذکر کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں تو عرش معلیٰ پر پہنچ گیا ہوں تو اس کی وجہ سے اس کا دل بہت ہی گھٹیا ہو جاتا ہے؛ کیونکہ وہ عرش معلیٰ پر تو نہیں پہنچتا، لیکن عرش تعالیٰ پر پہنچ جاتا ہے، اور اس تعالیٰ و تبر و بڑائی کی وجہ سے ساری عبادات و ریاضات بیکار و مردود ہو جاتی ہیں۔ اس لئے شیخ کی رہبری میں ان سب چیزوں کو کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

### بلند ہمتی سے کام لینے کی ضرورت ہے

بھائیو! مجھے دوسرا مشورہ یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کے گھر بنانے کے لئے بھی بڑی محنت، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، اور ہم خوشی خوشی اس محنت و مجاہدے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل کی تغیر کے لئے بھی محنت اور ہمت کی اشد ضرورت ہے، جن لوگوں نے ہمت کی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے پست ہمتی سے کام لیا ان کا گھر کبھی آباد نہیں ہو گا۔

ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو دین سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ سے ان کو تعلق بھی ہوتا ہے، آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اتحدے بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ گناہ چھوٹ جائے، وہ

چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بن جائے، وہ چاہتے ہیں کہ دل میں نرمی آجائے۔ یہ سب کچھ چاہتے ہیں؛ لیکن اس کے باوجود پست ہمتی کی وجہ سے نخے کو استعمال نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں بڑا کڑوا ہے، اس لئے ہمت نہیں ہو رہی ہے، بڑا دل کے اوپر بارڈالنا پڑے گا، اور بارڈا لئے میں پست ہمتی الیسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھائیو! پست ہمتی کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ایک دفعہ ذرا سی ہمت کر کے چھلانگ لگا دوساری پست ہمتی دور ہو جائے گی۔

### پست ہمتی کا علاج، افلاطون کا قصہ

ایک قصہ سنادوں آپ کو پست ہمتی پر، قصہ بھی ہے یہ، اور لطیفہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ افلاطون کے زمانے میں ایک دفعہ افلاطون ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے، بہت بڑے حکیم تھے، اپنے زمانے میں بہت بڑے عقائد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ بہر حال ایک کشتی میں سوار جا رہے تھے اور اسی کشتی میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بے چارہ پہلی مرتبہ کشتی میں سوار ہوا تھا، سمندر کا سفر تھا، ڈر کر چینیں مارنا شروع کر دیا، پست ہمتی کی وجہ سے، زور زور سے رورہا ہے، چیخ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی! کیا مصیبت آئی؟ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ ڈر لگتا ہے، افلاطون اپنے غور و فکر میں غرق تھا، اس لئے کہ وہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، وہ ہر وقت غور میں، فکر میں، تلاش میں، جستجو میں، حقائق کے دھیان میں رہتا تھا، تو اپنے آپ میں مگن بیٹھا ہوا تھا، بہت دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، اس نے پوچھا کیا تماشہ ہے؟ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھئے، یہ صاحب بہت

رور ہے ہیں، پریشان ہور ہے ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا گیا کہ پہلی دفعہ کشٹی میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور ڈر کے مارے چیخ رہے ہیں۔  
 افلاطون بہت بڑا عقلمند تھا، اس نے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، اس نے دونوں طرف سے اس آدمی کو ایک دم دبوچا، اور اٹھا کر کشٹی کے باہر سمندر میں زور سے ڈال کر ایک ڈبکی لگایا اور اٹھا کر بٹھا دیا، اٹھ کے جو بیٹھا تو وہ آدمی ایک دم خاموش ہو گیا، اب آواز بالکل نہیں۔ لوگوں نے کہا عجیب علاج ہے؟ پوچھا کہ جناب! یہ کیا علاج تھا؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کشٹی کے اس سفر کو بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے یہ پریشان ہورہا تھا، میں نے اس کو یہ بتایا کہ جہاں تو بیٹھا ہے، یہ عافیت ہے، اس سے بڑا خطرہ یہ ہے، ذرا ڈبکی مار کے دیکھ یہاں کا خطرہ، اب جو اس خطرہ میں جا کے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میں تو بڑی عافیت میں تھا۔ اب یہاں شکر کر رہا ہے۔

اسی طرح بھائی ہمت کر کے اگر ایک چھلانگ آپ لگادیں تو پھر اس کے بعد ساری پست ہمتی ختم ہو جاتی ہے، اب دیکھو پہلے تو کیسا پست ہمت ہو رہا تھا، اب دیکھئے کہ پست ہمتی ختم ہو گئی، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، خوشی خوشی بیٹھا ہوا ہے۔

اسی طرح یہ نئے دین اسلام کے سلسلے میں اگر ہم کو ذرا کڑوے لگتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی، تو یہ ہمت اس لئے نہیں ہوتی کہ ہم ہمت کرتے نہیں ہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھو، دو دفعہ کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد وہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ آدمی اس کے بغیر سکون سے نہیں رہتا، اس لئے ہمت کرنا چاہئے۔

## انسانی دل ایک کمپیوٹر ہے

### ایک حدیث کی جدید اور انوکھی تشریح

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد : فقد قال النبي ﷺ :

﴿ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ ﴾

(بخاری: ۱۳، مسلم: ۸۲۲)

میرے دینی بھائیو! میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: ”کان کھول کر سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوگھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو جسم کا پورا نظام صحیح رہتا ہے اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے، خراب ہو جائے تو جسم کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے، جان لو کہ وہ لوگھڑا دل ہے۔“ یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، جس میں اصلاح قلب کی جانب توجہ دلائی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جسم کے اندر سب سے اہم ہے اور اسی پر جسم کا ظاہری نظام بھی قائم ہے اور باطنی نظام بھی، لہذا دل کا نظام و سسٹم صحیح ہو تو جسم کا نظام صحیح رہتا ہے اور اگر دل کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا پورا نظام و سسٹم برباہ ہو جاتا ہے۔

اس وقت میں اس حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے اس حدیث کی توضیح و تشریح میں ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے، اسی کو اس وقت پیش کروں گا۔

بزرگو! ابھی کچھ دیر پہلے یہاں جامعہ (مراد جامعہ مسح العلوم، بنگلور ہے) میں دو صاحبان ملاقات کے لئے آئے تھے، جو ایک سافٹ وریر کمپنی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ اصلاحی باتیں سننے کی خواہش کی، ان سے گفتگو کے دوران ایک مضمون دل میں آیا اور اسی کے ساتھ مذکورہ حدیث کا مفہوم اور اس کی شرح بھی سامنے آگئی، میں نے ان کے سامنے اسی کو پیش کر دیا، میں اسی کو یہاں آپ حضرات کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔

### خطاب میں مخاطب کی رعایت

یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور کمپیوٹر کا دور ہے، سافٹ وریر کا دور ہے، بنگلور بھی اس سافٹ وریر کی دنیا میں بہت آگے ہے، جو صاحبان آئے تھے وہ بھی سافٹ وریر کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، اس لئے میرے ذہن میں ایک بات اسی کے حوالہ سے آئی، کیونکہ خطاب میں مخاطب کی رعایت ضروری ہے، اگر مخاطب ہو جاہل اور اس سے خطاب کیا جائے عالمانہ و فاضلانہ تو وہ پوری بات نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح مخاطب ہو عالم و فاضل اور خطاب میں وہ طریقہ استعمال کیا جائے جو ایک عامی کے مناسب ہے تو یہ مناسب نہ ہوگا۔ پھر اس میں بھی اگر ڈاکٹر سے اس کی اپنی اصطلاحات و زبان میں گفتگو کی جائے تو وہ بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے اور بات کا اثر جلد قبول کرتا ہے، اگر مخاطب انجینئر ہے اور اس سے گفتگو میں اس کی اصطلاحات کا سہارا لیا جائے تو اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ علماء کو اس کی بھی رعایت کرنا چاہئے۔ الغرض میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سافٹ وریر انجینئر ہیں تو میں نے انہی کی زبان میں گفتگو شروع کی۔

## کمپیوٹر میں تین چیزیں ہیں

ان کے سامنے جو عرض کیا گیا خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ کمپیوٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں: ایک کو ہارڈ ویر (HARD WARE) کہتے ہیں، اور ہارڈ ویر اس کا ظاہری جسم ہے، جو نظر آتا ہے اور دوسری چیز سافت ویر (SOFT WARE) ہے، یہ دراصل کمپیوٹر کی جان و روح ہے۔ پھر ہارڈ ویر میں ایک تو اس کی ہارڈ ڈسک (HARD DISK) ہوتی ہے اور ایک اس کا مانیٹر (MONITOR) ہوتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر میں کل تین چیزیں ہوتی ہیں: ایک ہے مانیٹر، دوسری ہے ہارڈ ڈسک اور تیسرا ہے سافت ویر (SOFT WARE)۔

اب سنئے کہ مانیٹر تو صرف یہ کام کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کی چیزوں کو اسکرین پر دکھاتا اور ظاہر { } کرتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں۔ اور ہارڈ ڈسک اس میں اصل چیز اور اس کی روح ہے، اسی سے کمپیوٹر کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ اور سافت ویر اس ہارڈ ڈسک میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے، جب آپ سافت ویر اس میں ڈالیں گے تو وہ اس کو اخذ یعنی (catch) کر لے گا، اور پھر اسی چیز کو مانیٹر کے ذریعہ دکھائے گا، مانیٹر کا کام صرف مظاہرہ کا ہے، یعنی دکھانے کا، ڈسپلے کرنے کا، اصل چیز یہ نہیں ہے، یہ دراصل کمپیوٹر کا جسم ہے اور ہارڈ ڈسک اس کمپیوٹر کے جسم کا دل ہے اور جو اس کے اندر سافت ویر بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دراصل اس کی روح ہے۔

ہارڈ ڈسک کو آپ پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے اور دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، خرید کے اسے ہاتھ میں اٹھا کر لاسکتے ہیں، لیکن سافت ویر جو ہارڈ ڈسک کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، یہ ایک

معنوی چیز ہے، جو ہارڈ سک کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، جب آپ اسے اس کے اندر داخل کریں گے تو مانیٹر دکھائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر جو جو عجیب و غریب چیزیں ہیں، وہ سب اس کے اندر سے نظر آئیں گی۔ اور سافٹ وریڈ اے بغیر کمپیوٹر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو کام میں لانا ہو تو سافٹ وریاس میں داخل کرنا پڑے گا۔

### انسان کی تمثیل کمپیوٹر سے

جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب یہ سمجھو کہ اسی طرح انسان کی مثال ایک کمپیوٹر کی سی ہے، اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں: ایک ہارڈ وریہ ہے یہ اس کا جسم ہے، اور اس میں ایک ظاہری جسم ہے، یہ مانیٹر کے مانند ہے اور ایک اندر ونی جسم ہے، یہ دل ہے، یہ ہارڈ سک کی طرح ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان میں ہارڈ وریکی طرح ہیں، اور اس ہارڈ وریکو آپ پکڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں، دل کو بھی آپ نکالیں گے توہاتھ میں آجائے گا، اور یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز اس دل میں ڈالی جانے والی چیز ہے، جیسے ایمان و کفر، نیکی یا برائی، طاعت یا معصیت وغیرہ، یہ اس انسانی کمپیوٹر کا سافٹ وری ہے۔

بھائیو! اب غور کرو کہ جس طرح کمپیوٹر سافٹ وری کے بغیر کام نہیں کرتا، اسی طرح دل کے اندر ایمان و نیکی کا سافٹ وری داخل کئے بغیر انسان بھی صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، لہذا ایک سافٹ وری آپ کو اپنے دل کے اندر داخل کرنا پڑے گا، جو سافٹ وری داخل کریں گے وہی آپ کے اعمال و افعال سے نظر آئے گا، وہی آپ کے اندر سے نظر آئے گا، اور یہ نظر آئے گا کہاں؟ مانیٹر میں، اور وہ مانیٹر انسان کا جسم ہے۔ سافٹ وری کو رکھنے والی چیز ہارڈ سک ہے اور ہارڈ سک کے اندر جس سافٹ

ویرکوآپ نے داخل کر دیا ہے، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے جسم مانیٹر ہے، اس میں آپ کے سارے عمل جواندھ سے صادر ہوں گے، وہ مظاہرہ میں آئیں گے، اچھا عمل، براعمل، یتکی و طاعت کا عمل، برائی و معصیت کا عمل، شر کا عمل، خیر کا عمل، شیطانی عمل، رحمانی عمل، سب اسی جسم پر ظاہر ہوگا، لیکن ظاہر کیسے ہوگا؟ دل کی وجہ سے ظاہر ہوگا، لیکن دل بھی یہ کام خود نہیں کرتا، بلکہ جو سافٹ ویرآپ اس میں ڈالیں گے، اسی سافٹ ویرکوآپ کے اعضاء سے دکھائے گا۔

یہ مثال میری سمجھ میں آئی اور مجھے یہ حدیث بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی حَلَّيْ لِنَّهُ عَلِيٌّ وَرَسُّلُهُ كہتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک لوقہ ہے، اور وہ دل ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے، یعنی جب اچھا سافٹ ویر اس میں داخل کیا جاتا ہے، جب اسے صالح بنایا جاتا ہے، اسے ڈھنگ کا بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بہترین چیزیں داخل کی جاتی ہیں تو جسم بھی صحیح و سالم رہتا ہے، اور اگر دل کی ہار ڈسک میں کوئی گندہ سافٹ ویر ڈال دیا تو جسم سے بھی برائی و خباشت ہی ظاہر ہوگی۔

## دل کے لئے ایمانی سافٹ ویر

اب سنئے کہ اعمال و اخلاق جو جسم سے ظاہر ہوتے ہیں ان کے صحیح و اچھے ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دل میں ایمانی سافٹ ویر داخل کئے جائیں، یہ ایمانی سافٹ ویر کیا ہیں؟ یہ محبت و عشق الہی، ذکر و یادِ الہی، خوف و خشیتِ الہی، توکل و اعتمادِ علی اللہ، انا بت و توجہِ الہ، اخلاص و للہیت، خشوع و خضوع، عشقِ رسول، عظمتِ رسول، خوف و فرارِ آخرت، زہد و قناعت، وغیرہ کے سافٹ ویر ہیں۔

مثال کے طور پر خوفِ خداوندی کا سافٹ ویر اس میں آپ داخل کر دیں، محبت خداوندی کا سافٹ ویر آپ اس میں داخل کر دیں، اور عشقِ محمدی کا سافٹ ویر آپ

اس میں داخل کر دیں اور اسی طریقہ پر آپ اس کے اندر اخلاص کا سافٹ ویری داخل کر دیں، تواضع کا ایک سافٹ ویری داخل کر دیں، اسی طرح بہت سارے یہ سافٹ ویری داخل کئے جاسکتے ہیں۔ جب اس قسم کے سافٹ ویری اس میں داخل کر دیں گے تواب آپ کے اس مانیٹر سے یعنی جسم کے اعضاء سے، اسی طرح کے نیک و عمدہ اعمال و افعال صادر ہونے لگیں گے، اب اس سے تواضع چھکلتی ہے، اخلاص اس سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، کبھی آنسو چھک پڑتے ہیں، کبھی دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، آدمی کا دل بھی، دماغ بھی سب اس سے متاثر ہوتے ہے، اللہ کی محبت آجائی ہے، نمازوں کی طرف دل چلنے لگتا ہے، خشوع و خضوع کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، دماغ آخرت کے کاموں کی طرف چلنے لگتا ہے۔

یہ ساری باتیں جو آپ کے جسم کے مانیٹر سے ظہور میں آتی ہیں، یہ دراصل دل کی ہار ڈسک کے اندر جو پڑا ہو اسافٹ ویری ہے اس کی وجہ سے ہیں۔

### شیطانی سافٹ ویری

اس کے برخلاف دل کو بگاڑنے والے سافٹ ویری بھی ہوتے ہیں، جو ایمانی سافٹ ویری کے برخلاف دل کو بتاہ و برباد کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ سے غفلت کا سافٹ ویری، دنیا کی محبت کا سافٹ ویری، تکبر کا سافٹ ویری، یا ریا کاری کا سافٹ ویری، خواہش نفس کا سافٹ ویری، آخرت سے غفلت کا سافٹ ویری، وغیرہ۔ اور فرض کیجئے کہ آپ نے دل کی اس ہار ڈسک میں جیسے دنیا کے لوگ کمپیوٹر میں غلط سافٹ ویری بھی داخل کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس کے اندر ناج گانا، فحش و عریاں تصاویر، حیا سوز مناظر، یا ایمان سوز باتیں، اسی طرح مختلف قسم کی گندی اور خبیث قسم کی

چیزیں، شیطانی قسم کے اعمال کے سافٹ ویریس میں داخل کر دیتے ہیں، اس طرح کے شیطانی سافٹ ویریسٹال کر دئے تو جو سافٹ ویریس میں رہے گا، وہی نظر آئے گا، آپ اسے کھولیں گے تو نگے ناق بھی نظر آئیں گے، خباشیں بھی نظر آئیں گی، شرارتیں بھی نظر آئیں گی۔

اسی طرح دل کے اندر اگر غلط سافٹ ویریاپ نے داخل کر دیا تو آپ کے اعمال سے بھی اور آپ کے جسم کے مانیٹر سے بھی وہی سب چیزیں چھکلیں گی۔ لہذا جو خبائش و رذائل ہمارے اعمال سے صادر ہوتے ہیں وہ دراصل دل کی ہارڈ ڈسک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

### حدیث مذکور کی شرح

اس تہہید کے بعد اب سنئے کہ اللہ کے نبی ﷺ اسی کو فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے:

”إِذَا أَصْلَحْتُ“ (جب یہ لوٹھڑا صحیح رہتا ہے)، اچھا سافٹ ویریس میں داخل کیا جاتا ہے ایمان کا، طاعت و عبادت کے چسلکہ کا، محبت الہی کا، خوف الہی کا، تقوی و تزکیہ کا، اخلاص للہیت کا، خوف و فکر آخرت کا تو پھر کیا ہوتا ہے:

”صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ (پورے جسم کا نظام صحیح طور پر قائم رہتا ہے) اور اس کے مانیٹر سے بھی اچھے اچھے اعمال، اچھی اچھی باتیں صادر ہوتی ہیں۔ زبان سے اللہ کا ذکر، دین کی باتیں، لوگوں کی بھلائی کی باتیں صادر ہوں گی، ہاتھ پیر سے نیک اعمال و اخلاق کا ظہور ہوگا، کانوں اور آنکھوں سے بھی صلاح و تقوی نکلے گا۔

”وَإِذَا فَسَدَتْ“ (اور اگر یہ لوٹھڑا خراب و فاسد ہو جاتا ہے) غلط سافٹ ویریس میں داخل کر دیا جاتا ہے، بے ایمانی کا، غفلت کا، معصیت کا، تکبر و عجب کا، دنیا

کی محبت کا، اور یہ دل کا ہار ڈسک خراب ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ:  
 ”فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ (تو پورا جسم کا نظام خراب ہو جائے گا) پھر پورے جسم سے غلط ہی غلط چیزیں ظاہر ہوں گی، حیا سوز و ایمان سوز اعمال صادر ہوں گے، کفر و شرک دکھائی دے گا، معصیت و گناہ کی باتیں ظاہر ہوں گی، نہ زبان ٹھیک چلے گی، نہ ہاتھ پیر صحیح کام کریں گے، نہ آنکھ و دکان ڈھنگ و سلیقہ کے ہوں گے، الغرض سارا جسم غلط ہی کام کرے گا۔

### حضرات صوفیاء کا کام

لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے دل میں اچھے اچھے سافٹ ویراکٹ کرے اور برے و گندے سافٹ ویرے سے پرہیز کرے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرات صوفیاء کا یہی کام ہے، وہ آپ کے دل کو نیکی و طاعت کے جذبات سے بھر دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی محبت و معرفت سے قلوب کو لبریز کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت سے دلوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں، لہذا حضرات مشائخ کے یہاں جو محنت ہوتی ہے، اس محنت کا خلاصہ اگر آج کی کمپیوٹر کی زبان میں، سائنس کی زبان میں پیش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ مشائخ دو کام کرتے ہیں: ایک یہ کہ آپ کو اچھے سافٹ ویراپنے جسم میں داخل کرنے کی تلقین اور گندے سافٹ ویرے سے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ خود یہ سافٹ ویرا ہم بھی کرتے ہیں، اس کی دکان انہی کے پاس ہے۔

### دل کا سافٹ ویرے کہاں ملے گا؟

اگر آپ کہیں کہ وہ ایمانی و روحاںی سافٹ ویرے کہاں ملے گا؟ یہ دنیا کے سافٹ ویرے تو ہم کو مل جاتے ہیں، بہت سی کمپنیاں ان کو بناتی ہیں، اور اس کا اشتہار و اعلان بھی کرتی ہیں، ان کے ایڈورٹیز آتے رہتے ہیں، اخبار میں ایڈورٹیز، رسائل و جرائد

میں ایڈورٹا یئز، اسی طرح ٹیلی ویژن میں اس کا ایڈورٹا یئز، ہر جگہ پر اس کا ایڈورٹا یئز ہوتا ہے، بورڈ بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کمپنیاں بڑی بڑی عمارتوں میں قائم ہیں، نظر آتی رہتی ہیں۔ مگر دل کا سافٹ ویر کہاں ملے گا؟

قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ﴾

[التوبۃ: ۱۱۹]

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈر اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو)

اگر جدید انداز میں موجودہ حالات کے پیش نظر یوں ترجمہ کریں تو بھی صحیح ہے کہ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈر کا سافٹ ویر خرید لو) یہ آج کا جدید ترجمہ ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں کہ جدید جدید ترجمے ہوں، تبھی جدید ترجمہ میں کر رہا ہوں۔

اس پرسوال پیدا ہوا کہ یہ سافٹ ویر کہاں سے خریدیں؟ تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ﴾ (نیک لوگوں کی مجلسوں کو چلے جاؤ، ان کے پاس یہ سافٹ ویر میل جائے گا) نیک لوگوں کی معیت میں، مجلس میں، صحبت میں، نیکوں کے قریب رہنے سے وہ سافٹ ویر تم کو مل سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی مجالس میں، اولیاء اللہ کی صحبتیوں میں اللہ نے وہ سافٹ ویر کھدیا ہے، جو آدمی ان کی صحبت میں بصدق دل رہتا ہے، اسے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا کے سافٹ ویر تو ہزاروں روپے دے کر خریدنا پڑتا ہے، لیکن یہاں اولیاء اللہ کے پاس سے تو یہ سافٹ ویر مفت میں کاپی [copy] ہو جاتا اور منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ والے دل کی ہارڈ ڈسک میں داخل کئے جانے والے سافٹ ویر کے ”سافٹ ویر انھیں“ بھی ہیں، اور اس کے ڈیلر [Dealer]

بھی؟ مگر ان کے یہاں کی ڈینگ بھی عجیب ہے کہ سب کو مفت میں دیتے ہیں۔ لہذا جس کو یہ روحانی و ایمانی سافٹ ویرچا ہے اس کو اولیاء اللہ وصالحین کی خدمت میں جانا چاہئے، اور ان سے یہ حاصل کرنا چاہئے۔

### دل کا وائرس [virus]

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کمپیوٹروالے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں وائرس [virus] آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کھولتے ہیں تو اسارت ہی نہیں ہوتا، اور کبھی استک ہو جاتا ہے اور کبھی بہت دیر سے چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں ڈالے گئے سافٹ ویرخاب ہو جاتے ہیں۔

اب سافٹ ویر انجینئر دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں وائرس [virus] آ گیا ہے۔ کیا ہے وائرس؟ کیا بلہ ہے یہ؟ وائرس کہتے ہیں زہر یا مادہ کو، جب یہ وائرس زہر بیلا مادہ کمپیوٹر پر حملہ کرتا ہے تو اس کے نظام کو تہس نہیں کر کے رکھ دیتا ہے، یہ تو کمپیوٹر کا وائرس ہے، اور ہمارے دل کے لحاظ سے اور آپ کو سمجھانے کے لیے وائرس کا ایک ترجمہ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ وائرس ہے ”شیطان“، وائرس کیا ہے؟ اس ہمارے کمپیوٹر کے شیطان کا نام ”وائرس“ ہے۔ لہذا یہ بھی جب ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے پورے نظام کو تہس نہیں کر کے رکھ دیتا ہے، دل خراب، دماغ خراب، آنکھیں خراب، کان خراب، زبان خراب، ہاتھ پر خراب، سارے اعضاء نکلنے ہو جاتے ہیں۔

اس شیطانی وائرس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ“ (کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح یا خون کی رگوں میں دوڑتا ہے) (صحیح بخاری: ۲۰۳۸، صحیح مسلم: ۵۸۰۷، صحیح ابن حبان: ۳۷۴۱)

اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے: ” مجری الدم“ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لفظ ” مجری“ مصدر ہوا و دوڑنے کے معنے میں ہو، اس صورت میں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح اس کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اور یہ ” مجری“ اس صورت میں ” مجری“ کا مفعول مطلق ہو گا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ ” مجری“ اسم نظر ہو، اور ” دوڑنے کی جگہ“ کے معنے میں ہو، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ: شیطان انسان کے اندر خون دوڑنے کی جگہ میں یعنی اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ پہلی صورت میں یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، مگر کہاں دوڑتا ہے؟ یہ نہیں بتایا گیا۔ اور دوسری صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے اندر کہاں دوڑتا ہے؟ خون دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے، یعنی رگوں میں دوڑتا ہے۔ الغرض شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ وا رس اس کو بیکار و خراب کرتا ہے۔

### دل کا اینٹی وائرس (Anti-Virus)

اس لئے جس طرح کمپیوٹر کو وا رس سے بچایا جاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی خود کو شیطان سے بچانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وا رس سے کیسے بچیں؟ کمپیوٹر والے کہتے ہیں کہ وا رس براخوبیت ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وا رس (Anti - Virus) سافت ویر بھی کمپیوٹر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اینٹی وا رس کا مطلب ”زہر مخالف“ سافت ویر، اور وہاں جس طرح اینٹی وا رس ضروری ہے اسی طرح دل کے لئے ایک اینٹی وا رس یعنی ”شیطان مخالف“ سافت ویر چاہئے۔ اینٹی، کے معنی ”مخالف“، جیسے اینٹی اسلام کے معنی کیا؟ اسلام مخالف۔ اسی طرح اینٹی وا رس کا مطلب ہوا ”وا رس مخالف“ یہ وا رس اس میں آگیا، اس کا ایک

مخالف ایک سافٹ ویر اس میں داخل کرنا پڑتا ہے، جب آپ اس میں وہ ڈالیں تو جو نہیں وائرس اس میں داخل ہوگا، فوراً وہ بتائے گا کہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آگیا ہے، مجھے کام میں لاو، میں اس کو پکڑ کے ختم کر دوں گا۔ اگر آپ نے اس پر کلک کر دیا، تو کلک کرتے ہی وہ اینٹی وائرس سافٹ ویر فوراً اسے پکڑ کر جہاں بھی ہو گا اسے ختم کر دے گا۔ یہ ہے اینٹی وائرس سافٹ ویر۔

اسی طرح بھائیو! ہمارے دل کے لئے بھی ایک اینٹی وائرس سافٹ ویر کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا نظام دل و جسم خراب نہ ہو جائے۔ یہ اینٹی وائرس کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈروخوف ہے، اور یہ ”خوف الہی کا اینٹی وائرس سافٹ ویر“ بھی حضرات اولیاء اللہ ہی ہمارے دل میں داخل کرتے ہیں۔ اور اسی کا نام ”اینٹی شیطان“ ہے۔ تو خوف الہی کے اینٹی وائرس کو دل میں ڈال کے چھوڑو، اب وہ دل میں پڑا رہے گا، جہاں کہیں شیطان آپ کے جسم پر حملہ کرے گا، یا دل میں گھس کر بہکائے گا تو وہ فوراً پکڑ لے گا، اور اس کو باہر نکال دے گا۔

### خلاصہ کلام

میرے بھائیو! اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دل اصل ہے، اس کی اچھائی و برائی کا اثر ہمارے ظاہر پر پڑتا ہے، دل اچھا تو سب اچھا، دل برا تو سب برا، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح و تزکیہ کا کام کریں، اور اس کا طریق یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں ایمانی و روحانی سافٹ ویر داخل کریں، یہی کہنا ہے کہ ہمارے دلوں میں بہترین سافٹ ویر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے عشق کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کے تقویٰ کا اور اسی طریقہ پر اخلاص کا، اور تواضع کا، اور نیکیوں کا، نماز سے لگاؤ کا اور دین کے کاموں سے الفت و محبت کا، یہ سب سافٹ

ویر ہیں اور ایک کمپیوٹر میں بہت سارے سافٹ ویر داخل کیے جاسکتے ہیں، اور وہ سب کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح برے و خبیث سافٹ ویر سے اس کو دور رکھیں، نیز شیطانی وائرس سے اس کو بچائیں، مگر یہ ایمانی و روحانی سافٹ ویر کہاں ملے گا؟ یہ اہل اللہ کی خدمت میں جانے سے ملے گا، اسی طرح وائرس سے بچانے کے لئے اس دل کی ہارڈ ڈسک میں اینٹی وائرس داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اہل اللہ کے پاس ملے گا، لہذا ان کی خدمت میں جایا جائے اور ان کو حاصل کیا جائے۔  
 اسی طرح دل کی اس ہارڈ ڈسک کے اندر آپ ان سافٹ ویروں کو داخل کر دیجئے وہ سب اندر پڑے پڑے آپ کو بہترین انسان بنائیں گے، اور آپ کے مانیٹر سے یعنی جسم کے اعضاء سے بہترین اعمال صادر کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔  
 اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب کی تمام تصانیف کا مرکز

شعبہ تحقیق و اشاعت

الجامعة الاسلامية مسیح العلوم

560001 رود بنگلور -- 84 آرمسٹرانگ

9036701512-----9036708149

یاد میں تیری یہ دل ہو گیا  
 نام سے تیرے یہ نکل ہو گیا  
 کھل گئے اسرارِ عشق و معرفت  
 غیرِ حق سے جو میں غافل ہو گیا  
 نقشِ لیلی ہو چکا ہے پاش پا ش  
 عشقِ مولیٰ اب تو حاصل گیا  
 ہو گئی ہے ہر تنہا دل سے دور  
 اب تو یہ دل تیرے قابل ہو گیا  
 غیر سے تیرے نظر ہی اٹھ گئی  
 جب سے تجھ سے عشقِ کامل ہو گیا  
 ذکر کے انوار مجھ پر چھا گئے  
 جو نہی دل میں کیف داخل ہو گیا  
 میری نظروں سے یہ دنیا گرگئی  
 کیونکہ کچھ کچھ میں بھی عاقل ہو گیا  
 کردے قرباں تجھ پر جو بھی یہ حیات

تیرے بندوں میں وہ شامل ہو گیا  
نور تیرا کیا خبر کیا چیز ہے  
سب ہیں روشن گو تیر اظل ہو گیا  
نقش فانی پر نظر آسان تھی  
تھا جوا آسان اب وہ مشکل ہو گیا  
ساری دنیا نقشِ حیرت بن گئی  
کیونکہ طرفی غم کا حامل ہو گیا

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.